

شرح

علم الصرف

تأليف
اولين

شيخ محمد رضوان

پاکپتن

صفحہ نمبر	عنوان
4	فصل (1) فعل ماضی کی گردان
12	فصل (2) فعل مضارع کا بیان
21	فصل (3) نئی تاکید بکن و نئی جحد بکن کی گردان
26	فصل (4) لام تاکید بانون تفسیل کی گردان
32	فصل (5) امر کی گردان
40	فصل (6) نئی کی گردان
45	مشرق: نئی تاکید بکن، لام تاکید بانون تاکید، امر بانون تاکید، نئی بانون تاکید کا
47	فصل (7) اسم و فعل
50	فصل (8) اسم مفعول
51	فصل (9) اسم تفضیل
53	فصل (10) اسم ظرف
54	فصل (11) اسم آلہ
56	ثلاثی مجہد: صرف صغیر
58	ثلاثی مزید فیہ (صرف صغیر) باہمزہ وصل
60	ثلاثی مزید فیہ (صرف صغیر) بے ہمزہ وصل
61	رباعی مجہد: صرف صغیر
62	رباعی مزید فیہ باہمزہ وصل: صرف صغیر
62	رباعی مزید فیہ بے ہمزہ وصل: صرف صغیر
63	ملحق بے رباعی مجہد: صرف صغیر
63	ملحق بے رباعی مزید: صرف صغیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿البقرة: ٦٤﴾

میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِيَدِهِ تَصْرِيفُ الْاَحْوَالِ وَتَخْفِيفُ الْاَثْقَالِ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْهَادِيْنَ اِلٰى مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ
وَعَلٰى اِلٰهِ وَصَحْبِهِ الْمُبَارِعَيْنِ لَهُ فِي الصِّفَاتِ وَالْاَعْمَالِ

فصل (1) فعل ماضی کی گردان

کَتَبَ، مَنَعَ، اجْتَنَبَ، عَلِمَ، تَرَكَ سے گردان کریں۔

کَتَبَ.

صیغے	بحث اشبات فعل ماضی معروف	بحث اشبات فعل ماضی مجہول	بحث منفی فعل ماضی معروف	بحث منفی فعل ماضی مجہول
واحد مذکر غائب	کَتَبَ لکھا اس ایک مرد نے	کُتِبَ لکھا گیا وہ ایک مرد	مَا كَتَبَ نہیں لکھا گیا وہ ایک مرد	مَا كَتَبَ نہیں لکھا اس ایک مرد
تثنیہ مذکر غائب	كَتَبَا لکھا ان دو مردوں نے	كُتِبَا لکھے گئے وہ دو مرد	مَا كَتَبَا نہیں لکھے گئے وہ دو مرد	مَا كَتَبَا نہیں لکھا ان دو مردوں نے
جمع مذکر غائب	كَتَبُوا لکھا ان سب مردوں نے	كُتِبُوا لکھے گئے وہ سب مرد	مَا كَتَبُوا نہیں لکھے گئے وہ سب مرد	مَا كَتَبُوا نہیں لکھا ان سب مردوں نے
واحد مؤنث غائب	كَتَبَتْ لکھا اس ایک عورت نے	كُتِبَتْ لکھی گئی وہ ایک عورت	مَا كَتَبَتْ نہیں لکھی گئی وہ ایک عورت	مَا كَتَبَتْ نہیں لکھا اس ایک عورت نے
تثنیہ مؤنث غائب	كَتَبَتَا لکھا ان دو عورتوں نے	كُتِبَتَا لکھی گئیں وہ دو عورتیں	مَا كَتَبَتَا نہیں لکھی گئیں وہ دو عورتیں	مَا كَتَبَتَا نہیں لکھا ان دو عورتوں نے
جمع مؤنث غائب	كَتَبْنَ لکھا ان سب عورتوں نے	كُتِبْنَ لکھی گئیں وہ سب عورتیں	مَا كَتَبْنَ نہیں لکھی گئیں وہ سب عورتیں	مَا كَتَبْنَ نہیں لکھا ان سب عورتوں نے
واحد مذکر حاضر	كَتَبْتُ لکھا میں	كُتِبْتُ لکھی گئی میں	مَا كَتَبْتُ نہیں لکھا میں	مَا كَتَبْتُ نہیں لکھا میں

لکھا گیا تو ایک مرد	لکھا تو ایک مرد نے	لکھا گیا تو ایک مرد	لکھا تو ایک مرد نے	
مَا كَتَبْنَا نہیں لکھے گئے تم دو مرد	مَا كَتَبْنَا نہیں لکھا تم دو مردوں نے	كُتِبْنَا لکھے گئے تم دو مرد	كُتِبْنَا لکھا تم دو مردوں نے	تشہیہ مذکر حاضر
مَا كُنْتُمْ نہیں لکھے گئے تم سب مرد	مَا كُنْتُمْ نہیں لکھا تم سب مردوں نے	كُنْتُمْ لکھے گئے تم سب مرد	كُنْتُمْ لکھا تم سب مردوں نے	جمع مذکر حاضر
مَا كُنْتِ نہیں لکھی گئی تو ایک عورت	مَا كُنْتِ نہیں لکھا تو ایک عورت نے	كُنْتِ لکھی گئی تو ایک عورت	كُنْتِ لکھا تو ایک عورت نے	واحد مؤنث حاضر
مَا كُنْتُمَا نہیں لکھی گئیں تم دو عورتیں	مَا كُنْتُمَا نہیں لکھا تم دو عورتوں نے	كُنْتُمَا لکھی گئیں تم دو عورتیں	كُنْتُمَا لکھا تم دو عورتوں نے	تشہیہ مؤنث حاضر
مَا كُنْتُنَّ نہیں لکھی گئیں تم سب عورتیں	مَا كُنْتُنَّ نہیں لکھا تم سب عورتوں نے	كُنْتُنَّ لکھی گئیں تم سب عورتیں	كُنْتُنَّ لکھا تم سب عورتوں نے	جمع مؤنث حاضر
مَا كُنْتُ نہیں لکھا گیا میں ایک مرد یا عورت	مَا كُنْتُ نہیں لکھا میں ایک مرد یا عورت نے	كُنْتُ لکھا گیا میں ایک مرد یا عورت	كُنْتُ لکھا میں ایک مرد یا عورت نے	واحد متکلم
مَا كُنْتُمَا نہیں لکھے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں	مَا كُنْتُمَا نہیں لکھا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے	كُنْتُمَا لکھے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں	كُنْتُمَا لکھا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے	تشہیہ جمع متکلم

مَنْعَ

بجٹ منفی فعل ماضی مجہول	بجٹ منفی فعل ماضی معروف	بجٹ اشبات فعل ماضی مجہول	بجٹ اشبات فعل ماضی معروف	صیغہ
مَا مَنَعَ نہیں روکا گیا وہ ایک مرد	مَا مَنَعَ نہیں روکا اس ایک مرد نے	مَنَعَ روکا گیا وہ ایک مرد	مَنَعَ روکا اس ایک مرد نے	واحد مذکر غائب

تشبیہ مذکر غائب	مَنْعَا روکا ان دو مردوں نے	مُنِعَا روکے گئے وہ دو مرد	مَامُنِعَا نہیں روکے گئے وہ دو مرد	
جمع مذکر غائب	مَنْعُوا روکا ان سب مردوں نے	مُنِعُوا روکے گئے وہ سب مرد	مَامُنِعُوا نہیں روکے گئے وہ سب مرد	
واحد مؤنث غائب	مَنْعَتْ روکا اس ایک عورت نے	مُنِعَتْ روکی گئی وہ ایک عورت	مَامُنِعَتْ نہیں روکی گئی وہ ایک عورت	
تشبیہ مؤنث غائب	مَنْعَتَا روکا ان دو عورتوں نے	مُنِعَتَا روکی گئیں وہ دو عورتیں	مَامُنِعَتَا نہیں روکی گئیں وہ دو عورتیں	
جمع مؤنث غائب	مَنْعْنَ روکا ان سب عورتوں نے	مُنِعْنَ روکیں گئیں وہ سب عورتیں	مَامُنِعْنَ نہیں روکیں گئیں وہ سب عورتیں	
واحد مذکر حاضر	مَنْعْتُ روکا تو ایک مرد نے	مُنِعْتُ روکا گیا تو ایک مرد	مَامُنِعْتُ نہیں روکا گیا تو ایک مرد	
تشبیہ مذکر حاضر	مَنْعْتُمَا روکا تم دو مردوں نے	مُنِعْتُمَا روکے گئے تم دو مرد	مَامُنِعْتُمَا نہیں روکے گئے تم دو مرد	
جمع مذکر حاضر	مَنْعْتُمْ روکا تم سب مردوں نے	مُنِعْتُمْ روکے گئے تم سب مرد	مَامُنِعْتُمْ نہیں روکے گئے تم سب مرد	
واحد مؤنث حاضر	مَنْعْتِ روکا تو ایک عورت نے	مُنِعْتِ روکی گئی تو ایک عورت	مَامُنِعْتِ نہیں روکی گئی تو ایک عورت	
تشبیہ مؤنث حاضر	مَنْعْتُمَا روکا تم دو عورتوں نے	مُنِعْتُمَا روکی گئیں تم دو عورتیں	مَامُنِعْتُمَا نہیں روکی گئیں تم دو عورتیں	
جمع مؤنث حاضر	مَنْعْتُنَّ روکا تم سب عورتوں نے	مُنِعْتُنَّ روکیں گئیں تم سب عورتیں	مَامُنِعْتُنَّ نہیں روکیں گئیں تم سب عورتیں	
واحد متکلم غائب	مَنْعْتُ روکا میں ایک مرد یا عورت نے	مُنِعْتُ روکا گیا میں ایک مرد یا عورت	مَامُنِعْتُ نہیں روکا گیا میں ایک مرد یا عورت	

تشنیہ و جمع متکلم	مَنْعَنَا روکا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے	مُنَعْنَا روکے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں	مَا مَنَعْنَا نہیں روکے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں
----------------------	---	---	--

اِجْتَنَبَ

غنی معروف اور مجہول کی گردان میں اِجْتَنَبَ کی بجائے مَا اِجْتَنَبَ اور مَا اِجْتَنَبَتْ پڑھے جائیں گے کیونکہ ہمزہ وصلی درمیان کلام میں گر جاتا لکھنے میں آتا پڑھنے میں نہیں۔

صیغے	بحث اشبات فعل ماضی معروف	بحث اشبات فعل ماضی مجہول	بحث غنی فعل ماضی معروف	بحث غنی فعل ماضی مجہول
واحد مذکر غائب	اِجْتَنَبَ پرہیز کیا اس ایک مرد نے	اُجْتَنَبَ پرہیز کیا گیا وہ ایک مرد	مَا اِجْتَنَبَ نہیں پرہیز کیا گیا وہ ایک مرد	مَا اِجْتَنَبَ نہیں پرہیز کیا گیا وہ ایک مرد
تشنیہ مذکر غائب	اِجْتَنَبَا پرہیز کیا ان دو مردوں نے	اُجْتَنَبَا پرہیز کیے گئے وہ دو مرد	مَا اِجْتَنَبَا نہیں پرہیز کیے گئے وہ دو مرد	مَا اِجْتَنَبَا نہیں پرہیز کیے گئے وہ دو مرد
جمع مذکر غائب	اِجْتَنَبُوا پرہیز کیا ان سب مردوں نے	اُجْتَنَبُوا پرہیز کیے گئے وہ سب مرد	مَا اِجْتَنَبُوا نہیں پرہیز کیے گئے وہ سب مرد	مَا اِجْتَنَبُوا نہیں پرہیز کیے گئے وہ سب مرد
واحد مؤنث غائب	اِجْتَنَبَتْ پرہیز کیا اس ایک عورت نے	اُجْتَنَبَتْ پرہیز کی گئی وہ ایک عورت	مَا اِجْتَنَبَتْ نہیں پرہیز کی گئی وہ ایک عورت	مَا اِجْتَنَبَتْ نہیں پرہیز کی گئی وہ ایک عورت
تشنیہ مؤنث غائب	اِجْتَنَبَتَا پرہیز کیا ان دو عورتوں نے	اُجْتَنَبَتَا پرہیز کی گئیں وہ دو عورتیں	مَا اِجْتَنَبَتَا نہیں پرہیز کی گئیں وہ دو عورتیں	مَا اِجْتَنَبَتَا نہیں پرہیز کی گئیں وہ دو عورتیں
جمع مؤنث غائب	اِجْتَنَبْنَ پرہیز کیا ان سب عورتوں نے	اُجْتَنَبْنَ پرہیز کی گئیں وہ سب عورتیں	مَا اِجْتَنَبْنَ نہیں پرہیز کی گئیں وہ سب عورتیں	مَا اِجْتَنَبْنَ نہیں پرہیز کی گئیں وہ سب عورتیں
واحد مذکر حاضر	اِجْتَنَبْتُ پرہیز کیا تو ایک مرد نے	اُجْتَنَبْتُ پرہیز کیا گیا تو ایک مرد	مَا اِجْتَنَبْتُ نہیں پرہیز کیا گیا تو ایک مرد	مَا اِجْتَنَبْتُ نہیں پرہیز کیا گیا تو ایک مرد

تشنیہ مذکر حاضر	اَجْتَنَّبْنَا پر ہیز کیا تم دو مردوں نے	اَجْتَنَّبْنَا پر ہیز کیے گئے تم دو مرد	مَا اَجْتَنَّبْنَا نہیں پر ہیز کیا تم دو مرد
جمع مذکر حاضر	اَجْتَنَّبْتُمْ پر ہیز کیا تم سب مردوں نے	اَجْتَنَّبْتُمْ پر ہیز کیے گئے تم سب مرد	مَا اَجْتَنَّبْتُمْ نہیں پر ہیز کیے گئے تم سب مرد
واحد مونث حاضر	اَجْتَنَّبْتِ پر ہیز کیا تو ایک عورت نے	اَجْتَنَّبْتِ پر ہیز کی گئی تو ایک عورت	مَا اَجْتَنَّبْتِ نہیں پر ہیز کی گئی تو ایک عورت
تشنیہ مونث حاضر	اَجْتَنَّبْنَا پر ہیز کیا تم دو عورتوں نے	اَجْتَنَّبْنَا پر ہیز کی گئیں تم دو عورتیں	مَا اَجْتَنَّبْنَا نہیں پر ہیز کی گئیں تم دو عورتیں
جمع مونث حاضر	اَجْتَنَّبْتُنَّ پر ہیز کیا تم سب عورتوں نے	اَجْتَنَّبْتُنَّ پر ہیز کی گئیں تم سب عورتیں	مَا اَجْتَنَّبْتُنَّ نہیں پر ہیز کی گئیں تم سب عورتیں
واحد متکلم	اَجْتَنَّبْتُ پر ہیز کیا میں ایک مرد یا عورت نے	اَجْتَنَّبْتُ پر ہیز کیا گیا میں ایک مرد یا عورت	مَا اَجْتَنَّبْتُ نہیں پر ہیز کیا گیا میں ایک مرد یا عورت
تشنیہ و جمع متکلم	اَجْتَنَّبْنَا پر ہیز کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے	اَجْتَنَّبْنَا پر ہیز کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں	مَا اَجْتَنَّبْنَا نہیں پر ہیز کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں

عِلْمَ

صیغہ	بحث اثبات فعل ماضی معروف	بحث اثبات فعل ماضی مجہول	بحث نفی فعل ماضی مجہول
واحد مذکر غائب	عَلِمَ جانا اس ایک مرد نے	عَلِمَ جانا گیا وہ ایک مرد	مَا عَلِمَ نہیں جاننا گیا وہ ایک مرد
تشنیہ مذکر غائب	عَلِمْنَا جانا ان دو مردوں نے	عَلِمْنَا جانے گئے وہ دو مرد	مَا عَلِمْنَا نہیں جانے گئے وہ دو مرد

مَاعَلَمُوا نہیں جانے گئے وہ سب مرد	مَاعَلَمُوا نہیں جانا ان سب مردوں نے	عَلِمُوا جانے گئے وہ سب مرد	عَلِمُوا جانا ان سب مردوں نے	جمع مذکر غائب
مَاعَلِمَتْ نہیں جانی گئی وہ ایک عورت	مَاعَلِمَتْ نہیں جانا اس ایک عورت نے	عَلِمَتْ جانی گئی وہ ایک عورت	عَلِمَتْ جانا اس ایک عورت نے	واحد مونث غائب
مَاعَلِمْنَا نہیں جانی گئیں وہ دو عورتیں	مَاعَلِمْنَا نہیں جانا ان دو عورتوں نے	عَلِمْنَا جانی گئیں وہ دو عورتیں	عَلِمْنَا جانا ان دو عورتوں نے	تشنیہ مونث غائب
مَاعَلِمْنَ نہیں جانی گئیں وہ سب عورتیں	مَاعَلِمْنَ نہیں جانا ان سب عورتوں نے	عَلِمْنَ جانی گئیں وہ سب عورتیں	عَلِمْنَ جانا ان سب عورتوں نے	جمع مونث غائب
مَاعَلِمْتُ نہیں جانا گیا تو ایک مرد	مَاعَلِمْتُ نہیں جانا تو ایک مرد نے	عَلِمْتُ جانا گیا تو ایک مرد	عَلِمْتُ جانا تو ایک مرد نے	واحد مذکر حاضر
مَاعَلِمْتُمَا نہیں جانے گئے تم دو مرد	مَاعَلِمْتُمَا نہیں جانا تم دو مردوں نے	عَلِمْتُمَا جانے گئے تم دو مرد	عَلِمْتُمَا جانا تم دو مردوں نے	تشنیہ مذکر حاضر
مَاعَلِمْتُمْ نہیں جانے گئے تم سب مرد	مَاعَلِمْتُمْ نہیں جانا تم سب مردوں نے	عَلِمْتُمْ جانے گئے تم سب مرد	عَلِمْتُمْ جانا تم سب مردوں نے	جمع مذکر حاضر
مَاعَلِمْتُ نہیں جانی گئی تو ایک عورت	مَاعَلِمْتُ نہیں جانا تو ایک عورت نے	عَلِمْتُ جانی گئی تو ایک عورت	عَلِمْتُ جانا تو ایک عورت نے	واحد مونث حاضر
مَاعَلِمْتُمَا نہیں جانیں گئیں تم دو عورتیں	مَاعَلِمْتُمَا نہیں جانا تم دو عورتوں نے	عَلِمْتُمَا جانیں گئیں تم دو عورتیں	عَلِمْتُمَا جانا تم دو عورتوں نے	تشنیہ مونث حاضر
مَاعَلِمْتُنَّ نہیں جانی گئیں تم سب عورتیں	مَاعَلِمْتُنَّ نہیں جانا تم سب عورتوں نے	عَلِمْتُنَّ جانی گئیں تم سب عورتیں	عَلِمْتُنَّ جانا تم سب عورتوں نے	جمع مونث حاضر
مَاعَلِمْتُ نہیں جانا گیا میں ایک مرد یا عورت	مَاعَلِمْتُ نہیں جانا میں ایک مرد یا عورت نے	عَلِمْتُ جانا گیا میں ایک مرد یا عورت	عَلِمْتُ جانا میں ایک مرد یا عورت نے	واحد متکلم

<p>مَا عَلَيْنَا نہیں جانے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں</p>	<p>مَا عَلَيْنَا نہیں جاننا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے</p>	<p>عَلَيْنَا جانے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں</p>	<p>عَلَيْنَا جاننا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے</p>	<p>تشنیہ و جمع متکلم</p>
--	--	---	--	---------------------------------------

تَرَكَّ

بجٹ ثنی فعل ماضی مجہول	بجٹ ثنی فعل ماضی معروف	بجٹ اثبات فعل ماضی مجہول	بجٹ اثبات فعل ماضی معروف	صیغہ
مَا تَرَكَّ نہیں چھوڑا گیا وہ ایک مرد	مَا تَرَكَّ نہیں چھوڑا اس ایک مرد نے	تَرَكَّ چھوڑا گیا وہ ایک مرد	تَرَكَّ چھوڑا اس ایک مرد نے	واحد مذکر غائب
مَا تَرَكَّا نہیں چھوڑے گئے وہ دو مرد	مَا تَرَكَّا نہیں چھوڑا ان دو مردوں نے	تَرَكَّا چھوڑے گئے وہ دو مرد	تَرَكَّا چھوڑا ان دو مردوں نے	تشنیہ مذکر غائب
مَا تَرَكُّوا نہیں چھوڑے گئے وہ سب مرد	مَا تَرَكُّوا نہیں چھوڑا ان سب مردوں نے	تَرَكُّوا چھوڑے گئے وہ سب مرد	تَرَكُّوا چھوڑا ان سب مردوں نے	جمع مذکر غائب
مَا تَرَكَّتْ نہیں چھوڑی گئی وہ ایک عورت	مَا تَرَكَّتْ نہیں چھوڑا اس ایک عورت نے	تَرَكَّتْ چھوڑی گئی وہ ایک عورت	تَرَكَّتْ چھوڑا اس ایک عورت نے	واحد مؤنث غائب
مَا تَرَكَّتَا نہیں چھوڑی گئیں وہ دو عورتیں	مَا تَرَكَّتَا نہیں چھوڑا ان دو عورتوں نے	تَرَكَّتَا چھوڑی گئیں وہ دو عورتیں	تَرَكَّتَا چھوڑا ان دو عورتوں نے	تشنیہ مؤنث غائب
مَا تَرَكَّتْنَ نہیں چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں	مَا تَرَكَّتْنَ نہیں چھوڑا ان سب عورتوں نے	تَرَكَّتْنَ چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں	تَرَكَّتْنَ چھوڑا ان سب عورتوں نے	جمع مؤنث غائب
مَا تَرَكَّتُ نہیں چھوڑا گیا تو ایک مرد	مَا تَرَكَّتُ نہیں چھوڑا تو ایک مرد نے	تَرَكَّتُ چھوڑا گیا تو ایک مرد	تَرَكَّتُ چھوڑا تو ایک مرد نے	واحد مذکر حاضر
مَا تَرَكَّتُمَا نہیں چھوڑے گئے تم دو مرد	مَا تَرَكَّتُمَا نہیں چھوڑا تم دو مردوں نے	تَرَكَّتُمَا چھوڑے گئے تم دو مرد	تَرَكَّتُمَا چھوڑا تم دو مردوں نے	تشنیہ مذکر حاضر

مَأْتِرُكُمْ نہیں چھوڑے گئے تم سب مرد	مَأْتِرُكُمْ نہیں چھوڑا تم سب مردوں نے	تُرِكْتُمْ چھوڑے گئے تم سب مرد	تُرِكْتُمْ چھوڑا تم سب مردوں نے	جمع مذکر حاضر
مَأْتِرُكِتِ نہیں چھوڑی گئی تو ایک عورت	مَأْتِرُكِتِ نہیں چھوڑا تو ایک عورت نے	تُرِكْتِ چھوڑی گئی تو ایک عورت	تُرِكْتِ چھوڑا تو ایک عورت نے	واحد مؤنث حاضر
مَأْتِرُنَّ نہیں چھوڑی گئیں تم دو عورتیں	مَأْتِرُنَّ نہیں چھوڑا تم دو عورتوں نے	تُرِكُنَّ چھوڑی گئیں تم دو عورتیں	تُرِكُنَّ چھوڑا تم دو عورتوں نے	تشبیہ مؤنث حاضر
مَأْتِرُنَّ نہیں چھوڑی گئیں تم سب عورتیں	مَأْتِرُنَّ نہیں چھوڑا تم سب عورتوں نے	تُرِكُنَّ چھوڑی گئیں تم سب عورتیں	تُرِكُنَّ چھوڑا تم سب عورتوں نے	جمع مؤنث حاضر
مَأْتِرُكُمْ نہیں چھوڑا گیا میں ایک مرد یا عورت	مَأْتِرُكُمْ نہیں چھوڑا میں ایک مرد یا عورت نے	تُرِكْتُ چھوڑا گیا میں ایک مرد یا عورت	تُرِكْتُ چھوڑا میں ایک مرد یا عورت نے	واحد متکلم
مَأْتِرُنَا نہیں چھوڑے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں	مَأْتِرُنَا نہیں چھوڑا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے	تُرِكْنَا چھوڑے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں	تُرِكْنَا چھوڑا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے	تشبیہ و جمع متکلم

معنی بیان کریں۔

مَا كُنْتُمْ اِيَّا.

نہیں لکھا ان سب مردوں نے

صیغہ جمع مذکر غائب بحث نفی فعل ماضی معرووف۔

مَنْعْتُمْ.

روکا تم سب مردوں نے۔

صیغہ جمع مذکر حاضر بحث اثبات فعل ماضی معرووف۔

اِحْتَبَانًا.

پرہیز کیا تم سب عورتوں نے۔

صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث اثبات فعل ماضی معرووف۔

مَا تَرَكَ.

نہیں چھوڑا اس ایک مرد نے۔

صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی فعل ماضی معروف۔

مَنْعَنَ.

روکا ان سب عورتوں نے۔

صیغہ جمع مونث غائب بحث اشبات فعل ماضی معروف۔

3. عربی میں ترجمہ کریں۔

میں نے نہیں روکا۔

مَا مَنَعْتُ.

صیغہ واحد متکلم بحث نفی فعل ماضی معروف۔

ان دو مردوں نے روکا۔

مَنْعَا.

صیغہ: تشبیہ مذکر غائب بحث اشبات فعل ماضی معروف۔

ان سب عورتوں نے پرہیز کیا۔

اجْتَنَبْنَ.

صیغہ: جمع مونث غائب بحث اشبات فعل ماضی معروف۔

ہم نے نہیں چھوڑا۔

مَا تَرَكَنَا.

صیغہ: جمع متکلم بحث نفی فعل ماضی معروف۔

ان دو عورتوں نے جانا۔

عَلِمَتْنَا.

صیغہ: تشبیہ مونث غائب بحث اشبات فعل ماضی معروف۔

فصل دوم (مضارع).

• 1. فعل مضارع کے وہ صیغے بتاؤ جنکے آخر میں پیش آتا ہے؟

واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم، تشنیہ و جمع متکلم کے صیغے.

• 2. فعل مضارع کے کون کون سے صیغے ہیں جنکے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے؟

واحد مؤنث حاضر، تشنیہ و جمع مذکر غائب، تشنیہ مؤنث حاضر.

• 3. نون اعرابی کون کون سے صیغوں میں مفتوح اور کتنے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے؟

حپار تشنیہ کہ ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے اور دو جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر. ایک مؤنث

حاضر کہ ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے

• 4. افعال ذیل کی گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو.

يُجْتَنِبُ، يَكْتَسِبُ، يَسْمَعُ، يَعْلَمُ، يَنْعُقُ.

يُجْتَنِبُ

صیغے	بحث اشبات فعل مضارع معروف	بحث اشبات فعل مضارع مجهول	بحث ثنی فعل مضارع معروف	بحث ثنی فعل مضارع مجهول
واحد مذکر غائب	يُجْتَنِبُ پرہیز کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد	يُجْتَنِبُ پرہیز کیا جاتا یا جائے گا وہ ایک مرد	لَا يُجْتَنِبُ نہیں پرہیز کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد	لَا يُجْتَنِبُ نہیں پرہیز کیا جاتا یا جائے گا وہ ایک مرد
تشنیہ مذکر غائب	يُجْتَنِبَانِ پرہیز کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد	يُجْتَنِبَانِ	لَا يُجْتَنِبَانِ	لَا يُجْتَنِبَانِ
جمع مذکر غائب	يُجْتَنِبُونَ پرہیز کرتے یا کریں گے وہ سب مرد	يُجْتَنِبُونَ	لَا يُجْتَنِبُونَ	لَا يُجْتَنِبُونَ
واحد مؤنث غائب	تُجْتَنِبُ پرہیز کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت	تُجْتَنِبُ پرہیز کی جاتی / گئی وہ ایک عورت	لَا تُجْتَنِبُ نہیں پرہیز کرتی یا کرے گی وہ ایک عورت	لَا تُجْتَنِبُ نہیں پرہیز کی جاتی / گئی وہ ایک عورت
تشنیہ مؤنث غائب	تُجْتَنِبَانِ پرہیز کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں	تُجْتَنِبَانِ	لَا تُجْتَنِبَانِ	لَا تُجْتَنِبَانِ
جمع مؤنث غائب	يُجْتَنِبْنَ پرہیز کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں	يُجْتَنِبْنَ	لَا يُجْتَنِبْنَ	لَا يُجْتَنِبْنَ

			پرہیز کرتی یا کریں گیں وہ سب عورتیں	
واحد مذکر حاضر	تَجْتَنَّبُ	پرہیز کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد	تَجْتَنَّبُ	پرہیز کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد
تثنیہ مذکر حاضر	تَجْتَنَّبَانِ	پرہیز کرتے ہیں یا کریں گے تم دو مرد	تَجْتَنَّبَانِ	پرہیز کرتے ہیں یا کریں گے تم دو مرد
جمع مذکر حاضر	تَجْتَنَّبُونَ	پرہیز کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد	تَجْتَنَّبُونَ	پرہیز کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد
واحد مؤنث حاضر	تَجْتَنَّبِيْنَ	پرہیز کرتی ہے یا عورت	تَجْتَنَّبِيْنَ	پرہیز کرتی ہے یا عورت
تثنیہ مؤنث حاضر	تَجْتَنَّبَانِ	پرہیز کرتی ہیں یا کریں گی تم دو عورتیں	تَجْتَنَّبَانِ	پرہیز کرتی ہیں یا کریں گی تم دو عورتیں
جمع مؤنث حاضر	تَجْتَنَّبْنَ	پرہیز کرتی ہیں یا کریں گی تم سب عورتیں	تَجْتَنَّبْنَ	پرہیز کرتی ہیں یا کریں گی تم سب عورتیں
واحد متکلم	أَجْتَنَّبُ	پرہیز کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا عورت	أَجْتَنَّبُ	پرہیز کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا عورت
تثنیہ و جمع متکلم	نَجْتَنَّبُ	پرہیز کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں	نَجْتَنَّبُ	پرہیز کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں

يَكْتَبُ.

صیغہ	بحث اشبات فعل مضارع معرون	بحث اشبات فعل مضارع مجهول	بحث نفي فعل مضارع معرون	بحث نفي فعل مضارع مجهول
------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

واحد مذکر غائب	يَكْتُبُ لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد	يَكْتُبُ لکھا جاتا ہے /جائے گا وہ ایک مرد	لَا يَكْتُبُ نہیں لکھا جاتا ہے /جائے گا وہ ایک مرد
تشبیہ مذکر غائب	يَكْتُبَانِ	يَكْتُبَانِ	لَا يَكْتُبَانِ
جمع مذکر غائب	يَكْتُبُونَ	يَكْتُبُونَ	لَا يَكْتُبُونَ
واحد مؤنث غائب	تَكْتُبُ لکھتا ہے یا لکھے گی وہ ایک عورت	تَكْتُبُ لکھی جاتی ہے یا جائے گی وہ ایک عورت	لَا تَكْتُبُ نہیں لکھی جاتی ہے یا جائے گی وہ ایک عورت
تشبیہ مؤنث غائب	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبَانِ	لَا تَكْتُبَانِ
جمع مؤنث غائب	يَكْتُبْنَ	يَكْتُبْنَ	لَا يَكْتُبْنَ
واحد مذکر حاضر	يَكْتُبُ لکھتا ہے یا لکھے گا تو ایک مرد	يَكْتُبُ لکھا جاتا ہے /جائے گا تو ایک مرد	لَا يَكْتُبُ نہیں لکھا جاتا ہے /جائے گا تو ایک مرد
تشبیہ مذکر حاضر	يَكْتُبَانِ	يَكْتُبَانِ	لَا يَكْتُبَانِ
جمع مذکر حاضر	يَكْتُبُونَ	يَكْتُبُونَ	لَا يَكْتُبُونَ
واحد مؤنث حاضر	تَكْتُبِينَ لکھتی یا لکھے گی تو ایک عورت	تَكْتُبِينَ لکھی جاتی ہے یا جائے گی تو ایک عورت	لَا تَكْتُبِينَ نہیں لکھتی یا لکھے گی تو ایک عورت
تشبیہ مؤنث حاضر	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبَانِ	لَا تَكْتُبَانِ
جمع مؤنث حاضر	يَكْتُبْنَ	يَكْتُبْنَ	لَا يَكْتُبْنَ
واحد متکلم	أَكْتُبُ لکھتا ہے یا لکھوں گا میں ایک مرد یا عورت	أَكْتُبُ لکھا جاتا ہے یا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت نے	لَا أَكْتُبُ نہیں لکھا جاتا ہے یا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت نے
تشبیہ و جمع متکلم	تَكْتُبُ	تَكْتُبُ	لَا تَكْتُبُ

يَسْمَعُ •

صیغہ	بحث اثبات فعل مضارع معروف	بحث اثبات فعل مضارع مجہول	بحث نفی فعل مضارع معروف	بحث نفی فعل مضارع مجہول
واحد مذکر غائب	يَسْمَعُ سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد	يُسْمَعُ سنا جاتا ہے یا جائے گا وہ ایک مرد	لَا يَسْمَعُ نہیں سنا جاتا ہے یا جائے گا وہ ایک مرد	لَا يُسْمَعُ نہیں سنا جاتا ہے یا جائے گا وہ ایک مرد
تشنیہ مذکر غائب	يَسْمَعَانِ	يُسْمَعَانِ	لَا يَسْمَعَانِ	لَا يُسْمَعَانِ
جمع مذکر غائب	يَسْمَعُونَ	يُسْمَعُونَ	لَا يَسْمَعُونَ	لَا يُسْمَعُونَ
واحد مؤنث غائب	تَسْمَعُ سنتی ہے یا سنے گی وہ ایک عورت	تُسْمَعُ سنی جاتی ہے یا جائے گی وہ ایک عورت	لَا تَسْمَعُ نہیں سنتی ہے یا سنے گی وہ ایک عورت	لَا تُسْمَعُ نہیں سنی جاتی ہے یا جائے گی وہ ایک عورت
تشنیہ مؤنث غائب	تَسْمَعَانِ	تُسْمَعَانِ	لَا تَسْمَعَانِ	لَا تُسْمَعَانِ
جمع مؤنث غائب	يَسْمَعْنَ	يُسْمَعْنَ	لَا يَسْمَعْنَ	لَا يُسْمَعْنَ
واحد مذکر حاضر	تَسْمَعُ سنتا ہے یا سنے گا تو ایک مرد	تُسْمَعُ سنا جاتا ہے یا جائے گا تو ایک مرد	لَا تَسْمَعُ نہیں سنا جاتا ہے یا جائے گا تو ایک مرد	لَا تُسْمَعُ نہیں سنا جاتا ہے یا جائے گا تو ایک مرد
تشنیہ مذکر حاضر	تَسْمَعَانِ	تُسْمَعَانِ	لَا تَسْمَعَانِ	لَا تُسْمَعَانِ
جمع مذکر حاضر	تَسْمَعُونَ	تُسْمَعُونَ	لَا تَسْمَعُونَ	لَا يُسْمَعُونَ
واحد مؤنث حاضر	تَسْمَعِينَ سنتی ہے یا سنے گی تو ایک عورت	تُسْمَعِينَ سنی جاتی ہے یا جائے گی تو ایک عورت	لَا تَسْمَعِينَ نہیں سنتی ہے یا سنے گی تو ایک عورت	لَا تُسْمَعِينَ نہیں سنی جاتی ہے یا جائے گی تو ایک عورت
تشنیہ مؤنث حاضر	تَسْمَعَانِ	تُسْمَعَانِ	لَا تَسْمَعَانِ	لَا تُسْمَعَانِ
جمع مؤنث حاضر	تَسْمَعْنَ	تُسْمَعْنَ	لَا تَسْمَعْنَ	لَا يُسْمَعْنَ
واحد متکلم	أَسْمَعُ	أُسْمَعُ	لَا أَسْمَعُ	لَا أُسْمَعُ

سنتا ہوں یا سنوں گا				
میں ایک مرد یا عورت				
سنا جاتا یا جاؤں گا				
گامیں ایک مرد یا عورت				
لَا تُسْمِعُ	لَا تُسْمِعُ	لَا تُسْمِعُ	لَا تُسْمِعُ	تشبیہ و جمع تکلم

يَعْلَمُ

صیغہ	بحث اثبات فعل	بحث اثبات فعل	بحث اثبات فعل	بحث نفی فعل مضارع مجہول
واحد مذکر	يَعْلَمُ	يَعْلَمُ	يَعْلَمُ	لَا يَعْلَمُ
غائب	جانتا ہے یا جانے گا	جانتا ہے یا جانے گا	جانتا ہے یا جانے گا	نہیں جانتا ہے یا جانے گا وہ ایک مرد
تشبیہ مذکر	يَعْلَمَانِ	يَعْلَمَانِ	يَعْلَمَانِ	لَا يَعْلَمَانِ
غائب	جمع مذکر	يَعْلَمُونَ	يَعْلَمُونَ	لَا يَعْلَمُونَ
واحد مؤنث	تَعْلَمُ	تَعْلَمُ	تَعْلَمُ	لَا تَعْلَمُ
غائب	جانتی ہے یا جانے گی وہ ایک عورت	جانتی ہے یا جانے گی وہ ایک عورت	جانتی ہے یا جانے گی وہ ایک عورت	نہیں جانتی ہے یا جانے گی وہ ایک عورت
تشبیہ مؤنث	تَعْلَمَانِ	تَعْلَمَانِ	تَعْلَمَانِ	لَا تَعْلَمَانِ
جمع مؤنث	يَعْلَمْنَ	يَعْلَمْنَ	يَعْلَمْنَ	لَا يَعْلَمْنَ
واحد مذکر حاضر	تَعْلَمُ	تَعْلَمُ	تَعْلَمُ	لَا تَعْلَمُ
حاضر	جانتا ہے یا جانے گا تو ایک مرد	جانتا ہے یا جانے گا تو ایک مرد	جانتا ہے یا جانے گا تو ایک مرد	نہیں جانتا ہے یا جانے گا تو ایک مرد
تشبیہ مذکر حاضر	تَعْلَمَانِ	تَعْلَمَانِ	تَعْلَمَانِ	لَا تَعْلَمَانِ
جمع مذکر حاضر	تَعْلَمُونَ	تَعْلَمُونَ	تَعْلَمُونَ	لَا تَعْلَمُونَ
واحد مؤنث حاضر	تَعْلَمِينَ	تَعْلَمِينَ	تَعْلَمِينَ	لَا تَعْلَمِينَ
حاضر	جانتی ہے یا جانے گی تو ایک عورت	جانتی ہے یا جانے گی تو ایک عورت	جانتی ہے یا جانے گی تو ایک عورت	نہیں جانتی ہے یا جانے گی تو ایک عورت

تثنيه مونث حاضر	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمَانِ	لَا تُعَلِّمَانِ
جمع مونث حاضر	تُعَلِّمْنَ	لَا تُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمْنَ	لَا تُعَلِّمْنَ
واحد متكلم	أَعْلَمُ	لَا أَعْلَمُ	أَعْلَمُ	لَا أَعْلَمُ
حبا تا ہے یا حبانے گا میں ایک سردیا عورت	حبا تا ہے یا حبانے گا میں ایک سردیا عورت	حبا تا ہے یا حبانے گا میں ایک سردیا عورت	حبا تا ہے یا حبانے گا میں ایک سردیا عورت	حبا تا ہے یا حبانے گا میں ایک سردیا عورت
تثنيه و جمع متكلم	نُعَلِّمُ	لَا نُعَلِّمُ	نُعَلِّمُ	لَا نُعَلِّمُ

يُنْعِ

صيغة	بجث اثبات فعل	بجث اثبات فعل	بجث نفي فعل مضارع	بجث نفي فعل مضارع
واحد مذکر غائب	يُنْعِ	يُنْعِ	لَا يُنْعِ	لَا يُنْعِ
تثنيه مذکر غائب	يُنْعَانِ	يُنْعَانِ	لَا يُنْعَانِ	لَا يُنْعَانِ
جمع مذکر غائب	يُنْعُونَ	يُنْعُونَ	لَا يُنْعُونَ	لَا يُنْعُونَ
واحد مونث غائب	تُنْعِ	تُنْعِ	لَا تُنْعِ	لَا تُنْعِ
تثنيه مونث غائب	تُنْعَانِ	تُنْعَانِ	لَا تُنْعَانِ	لَا تُنْعَانِ
جمع مونث غائب	يُنْعْنَ	يُنْعْنَ	لَا يُنْعْنَ	لَا يُنْعْنَ
واحد مذکر حاضر	يُنْعِ	يُنْعِ	لَا يُنْعِ	لَا يُنْعِ
تثنيه مذکر حاضر	تُنْعَانِ	تُنْعَانِ	لَا تُنْعَانِ	لَا تُنْعَانِ
جمع مذکر حاضر	يُنْعُونَ	يُنْعُونَ	لَا يُنْعُونَ	لَا يُنْعُونَ
واحد مونث حاضر	تُنْعِينِ	تُنْعِينِ	لَا تُنْعِينِ	لَا تُنْعِينِ

نہیں روکی جاتی ہے یا جائے گی تو ایک عورت				
تثنیہ مونث حاضر	لَا تُنْعَانِ	تُنْعَانِ	تُنْعَانِ	لَا تُنْعَانِ
جمع مونث حاضر	لَا تُنْعَنَنَّ	تُنْعَنَنَّ	تُنْعَنَنَّ	لَا تُنْعَنَنَّ
واحد متکلم	لَا أَمْنَعُ	أَمْنَعُ	أَمْنَعُ	لَا أَمْنَعُ
تثنیہ و جمع متکلم	لَا نَمْنَعُ	نَمْنَعُ	نَمْنَعُ	لَا نَمْنَعُ

5. فہرات ذیل کے معنی بتاؤ۔

• لَا يَكْتُبُونَ.

صیغہ: جمع مذکر غائب، بحث نفی فعل مضارع معرووف۔

ترجمہ: نہیں لکھتے یا لکھیں گے وہ سب مرد

• يَسْمَعُونَ.

صیغہ: جمع مذکر غائب، بحث اثبات فعل مضارع معرووف۔

ترجمہ: سنتے یا سنیں گے وہ سب مرد۔

• تَعْلِيْنَ.

صیغہ: واحد مونث حاضر، بحث اثبات فعل مضارع معرووف۔

ترجمہ: جانتی ہو یا جانو گی تو ایک عورت۔

• يَكْتُبْنَ.

صیغہ: جمع مونث غائب، بحث اثبات فعل مضارع معرووف۔

ترجمہ: لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں۔

• نَمْنَعُ.

صیغہ: تثنیہ و جمع متکلم، بحث اثبات فعل مضارع معرووف۔

ترجمہ: روکتے ہیں یا روکیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔

• أَمْرًا.

صیغہ: واحد متکلم، بحث اثبات فعل مضارع معرووف۔

ترجمہ: چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا میں ایک مرد یا عورت۔

6. اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔

ہم لکھتے ہیں۔

نَكْتُبُ.

صیغہ: تشنیه و جمع متکلم، بحث اشبات فعل مضارع معروف۔

وہ سب مرد جانتے ہیں۔

يَعْلَمُونَ.

صیغہ: جمع مذکر غائب، بحث اشبات فعل مضارع معروف۔

میں روکتا ہوں۔

أَمْنَعُ.

صیغہ: واحد متکلم، بحث اشبات فعل مضارع معروف۔

تم سب چھوڑتے ہو۔

تَتْرُكُونَ.

صیغہ: جمع مذکر غائب، بحث اشبات فعل مضارع معروف۔

وہ سب عورتیں سنیں گی۔

يَسْمَعْنَ.

صیغہ: جمع مؤنث غائب، بحث اشبات فعل مضارع معروف۔

تو ایک عورت روکے گی۔

تَتَمَنَّعِينَ.

صیغہ: واحد مؤنث حاضر، بحث اشبات فعل مضارع معروف۔

تم دو مرد لکھو گے۔

تَكْتُبَانِ.

صیغہ: تشنیه مذکر حاضر، بحث اشبات فعل مضارع معروف۔

تم دو عورتیں لکھو گی۔

تَكْتُبَانِ.

صیغہ: تشنیہ موزنث حاضر، بحث اثبات فعل مضارع معروف.

تم سب عورتیں سنو گی.

تَسْمَعْنَ.

صیغہ: جمع موزنث حاضر، بحث اثبات فعل مضارع معروف.

ہم روکتے ہیں.

نَمْنَعُ.

صیغہ: تشنیہ و جمع متکلم، بحث اثبات فعل مضارع معروف.

میں ایک عورت سنوں گی.

أَسْمَعُ.

صیغہ: واحد متکلم، بحث اثبات فعل مضارع معروف.

وہ دو عورتیں لکھتی ہیں.

تَكْتُبَانِ.

صیغہ: تشنیہ موزنث غائب، بحث اثبات فعل مضارع معروف.

ہم جانتے ہیں.

نَعْلَمُ.

صیغہ: تشنیہ و جمع متکلم، بحث اثبات فعل مضارع معروف.

فصل (3) نفی تاکید ب لکن و نفی بحذف لم کی گردان

- لکن و لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا؟
لفظوں میں:

لکن: مضارع کے 5 صیغے (واحد مذکر غائب، واحد موزنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد و تشنیہ و جمع متکلم) میں آخری حرف پر پیش کی بجائے زبردیتا ہے۔ آخر میں حرف علت (و، ی) ہو تو اس کو بھی فتح دیتا ہے اور حرف علت (الف) ہو تو اس میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ نون اعرابی بھی گر جاتا ہے۔

لم: مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہتا ان کو جبزم دیتا ہے اور آخر میں حرف علت (الف، واو، ی) ہو تو اس کو بھی گر ادیتا۔ نون اعرابی بھی گر جاتا ہے۔

معنی میں:

لکن: فعل مضارع کو حوالہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔

لم: فعل مضارع کو حوالہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے

2. درج ذیل کی گردان مسند رجب نقشہ بالا سے کرو۔

لَنْ يُجْتَنِبَ، لَنْ يُسْمِعَ، لَمْ يُكْتَبْ، لَمْ يَعْلَمْ

لَنْ يُجْتَنِبَ، لَنْ يُسْمِعَ....

صیغہ	بحث منفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل معروف	بحث منفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل مجہول	بحث منفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل مجہول	بحث منفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل مجہول
واحد مذکر غائب	لَنْ يُجْتَنِبَ ہرگز نہیں پڑھیں گے گا وہ ایک مرد	لَنْ يُسْمِعَ ہرگز نہیں سنا جائے گا وہ ایک مرد	لَنْ يُجْتَنِبَ ہرگز نہیں پڑھیں گے گا وہ ایک مرد	لَنْ يُسْمِعَ ہرگز نہیں سنا جائے گا وہ ایک مرد
تشبیہ مذکر غائب	لَنْ يُجْتَنِبَا	لَنْ يُسْمِعَا	لَنْ يُجْتَنِبَا	لَنْ يُسْمِعَا
جمع مذکر غائب	لَنْ يُجْتَنِبُوا	لَنْ يُسْمِعُوا	لَنْ يُجْتَنِبُوا	لَنْ يُسْمِعُوا
واحد مؤنث غائب	لَنْ تُجْتَنِبَ ہرگز نہیں پڑھیں گی وہ ایک عورت	لَنْ تُسْمِعَ ہرگز نہیں سنے گی وہ ایک عورت	لَنْ تُجْتَنِبَ ہرگز نہیں پڑھیں گی وہ ایک عورت	لَنْ تُسْمِعَ ہرگز نہیں سنی جائے گی وہ ایک عورت
تشبیہ مؤنث غائب	لَنْ تُجْتَنِبَا	لَنْ تُسْمِعَا	لَنْ تُجْتَنِبَا	لَنْ تُسْمِعَا
جمع مؤنث غائب	لَنْ يُجْتَنِبْنَ لَنْ	لَنْ يُسْمِعْنَ	لَنْ يُجْتَنِبْنَ	لَنْ يُسْمِعْنَ
واحد مذکر حاضر	لَنْ تُجْتَنِبَ ہرگز نہیں پڑھیں گے تا تو ایک مرد	لَنْ تُسْمِعَ ہرگز نہیں سنے گا تو ایک مرد	لَنْ تُجْتَنِبَ ہرگز نہیں پڑھیں گے تا تو ایک مرد	لَنْ تُسْمِعَ ہرگز نہیں سنا جائے گا تو ایک مرد
تشبیہ مذکر حاضر	لَنْ تُجْتَنِبَا	لَنْ تُسْمِعَا	لَنْ تُجْتَنِبَا	لَنْ تُسْمِعَا
جمع مذکر حاضر	لَنْ تُجْتَنِبُوا	لَنْ تُسْمِعُوا	لَنْ تُجْتَنِبُوا	لَنْ تُسْمِعُوا
واحد مؤنث حاضر	لَنْ تُجْتَنِبِي ہرگز نہیں پڑھیں گے گی تو ایک عورت	لَنْ تُسْمِعِي ہرگز نہیں سنے گی تو ایک عورت	لَنْ تُجْتَنِبِي ہرگز نہیں پڑھیں گے گی تو ایک عورت	لَنْ تُسْمِعِي ہرگز نہیں سنی جائے گی تو ایک عورت

کُنْ تُسْمِعَا	کُنْ تُسْمِعَا	کُنْ تُجْعَلِبَا	کُنْ تُجْعَلِبَا	تشنیہ مونث حاضر
کُنْ تُسْمِعُن	کُنْ تُسْمِعُن	کُنْ تُجْعَلِبُن	کُنْ تُجْعَلِبُن	جمع مونث حاضر
کُنْ أُسْمِعَ ہرگز نہیں سنا جائے گا میں ایک مرد یا عورت	کُنْ أُسْمِعَ ہرگز نہیں سنے گا میں ایک مرد یا عورت	کُنْ أُجْعَلِبَ ہرگز نہیں پرہیز کیا جائے گا میں ایک مرد یا عورت	کُنْ أُجْعَلِبَ ہرگز نہیں پرہیز کرے گا میں ایک مرد یا عورت نے	واحد متکلم
کُنْ تُسْمِعَ	کُنْ تُسْمِعَ	کُنْ تُجْعَلِبَ	کُنْ تُجْعَلِبَ	تشنیہ و جمع متکلم

کَمْ يَكْتُبُ، كَمْ يَعْلَمُ.

صیغہ	بحث ثنی، حمد بآم در فعل مستقبل مجہول	بحث ثنی، حمد بآم در فعل مستقبل مجہول	بحث ثنی، حمد بآم در فعل مستقبل معروف	بحث ثنی، حمد بآم در فعل مستقبل مجہول
واحد مذکر غائب	کَمْ يَكْتُبُ نہیں جانا اس ایک مرد	کَمْ يَكْتُبُ نہیں لکھا گیا وہ ایک مرد	کَمْ يَكْتُبُ نہیں لکھا اس ایک مرد نے	کَمْ يَكْتُبُ نہیں جانا گیا وہ ایک مرد
تشنیہ مذکر غائب	کَمْ يَكْتُبَا	کَمْ يَكْتُبَا	کَمْ يَكْتُبَا	کَمْ يَكْتُبَا
جمع مذکر غائب	کَمْ يَكْتُبُوا	کَمْ يَكْتُبُوا	کَمْ يَكْتُبُوا	کَمْ يَكْتُبُوا
واحد مونث غائب	کَمْ تَكْتُبُ نہیں جانی گئی وہ ایک عورت	کَمْ تَكْتُبُ نہیں لکھی گئی وہ ایک عورت	کَمْ تَكْتُبُ نہیں لکھا اس ایک عورت نے	کَمْ تَكْتُبُ نہیں جانی گئی وہ ایک عورت
تشنیہ مونث غائب	کَمْ تَكْتُبَا	کَمْ تَكْتُبَا	کَمْ تَكْتُبَا	کَمْ تَكْتُبَا
جمع مونث غائب	کَمْ يَكْتُبُنَ	کَمْ يَكْتُبُنَ	کَمْ يَكْتُبُنَ	کَمْ يَكْتُبُنَ
واحد مذکر حاضر	کَمْ تَعْلَمُ نہیں جانا تو ایک مرد نے	کَمْ تَعْلَمُ نہیں لکھا گیا تو ایک مرد	کَمْ تَعْلَمُ نہیں لکھا تو ایک مرد نے	کَمْ تَعْلَمُ نہیں جانا گیا تو ایک مرد
تشنیہ مذکر حاضر	کَمْ تَعْلَمَا	کَمْ تَعْلَمَا	کَمْ تَعْلَمَا	کَمْ تَعْلَمَا
جمع مذکر حاضر	کَمْ تَعْلَمُوا	کَمْ تَعْلَمُوا	کَمْ تَعْلَمُوا	کَمْ تَعْلَمُوا

واحد مونث حاضر	لَمْ تُكْتَبِي نہیں لکھا تو ایک عورت نے	لَمْ تُكْتَبِي نہیں لکھی گئی تو ایک عورت	لَمْ تَعْلَمِي نہیں جانا تو ایک عورت نے	لَمْ تُعْلَمِي نہیں جانی گئی تو ایک عورت
تشنیہ مونث حاضر	لَمْ تُكْتَبَا	لَمْ تُكْتَبَا	لَمْ تَعْلَمَا	لَمْ تُعْلَمَا
جمع مونث حاضر	لَمْ تُكْتَبْنَ	لَمْ تُكْتَبْنَ	لَمْ تَعْلَمْنَ	لَمْ تُعْلَمْنَ
واحد متکلم	لَمْ أَكْتُبْ نہیں لکھا میں ایک سردیا عورت نے	لَمْ أَكْتُبْ نہیں لکھا میں ایک سردیا عورت نے	لَمْ أُكْتَبْ نہیں لکھا گیا میں ایک سردیا عورت	لَمْ أُعْلَمْ نہیں جانا گیا میں ایک سردیا عورت
تشنیہ جمع متکلم	لَمْ نُكْتَبْ	لَمْ نُكْتَبْ	لَمْ نَعْلَمْ	لَمْ نُعْلَمْ

2. ذیل کے صیغوں کے معنی بتاؤ۔

لَنْ يَفْعَلُوا

ترجمہ: ہرگز نہیں کریں گے وہ سب سرد۔

صیغہ: جمع مذکر غائب، بحث نفی بلن در فعل مستقبل معروف۔

لَمْ يَفْعَلُوا

ترجمہ: نہیں کیا ان سب سردوں نے۔

صیغہ: جمع مذکر غائب، بحث نفی جحدب لم در فعل مستقبل معروف۔

لَنْ أَسْمَعَ

ترجمہ: ہرگز نہیں سونگا میں ایک سردیا عورت۔

صیغہ: واحد متکلم، بحث نفی بلن در فعل مستقبل معروف۔

لَمْ يَجْتَنِبُوا

ترجمہ: نہیں پرہیز کیا ان سب سردوں نے۔

صیغہ: جمع مذکر غائب، بحث نفی جحدب لم در فعل مستقبل معروف۔

لَمْ يَتَوَكَّنْ

ترجمہ: نہیں چھوڑا ان سب عورتوں نے۔

صیغہ: جمع مونث غائب، بحث نفی جحدب لم در فعل مستقبل معروف۔

3. ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔

میں ہرگز نہیں لکھوں گا۔

لَنْ أَكْتُبَ.

صیغہ: واحد متکلم، بحث نفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل معروف۔

وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی۔

لَنْ تَسْمَعَنَّ.

صیغہ: واحد موزنث غائب، بحث نفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل معروف۔

تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا۔

لَمْ تَجْتَنِبَا.

صیغہ: تشبیہ مذکر حاضر، بحث نفی جحد لَمْ در فعل مستقبل معروف۔

تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے۔

لَمْ تُتْرَكُوا.

صیغہ: جمع مذکر حاضر، بحث نفی جحد لَمْ در فعل مستقبل مجہول۔

ہم نے نہیں لکھا۔

لَمْ نَكْتُبْ.

صیغہ: تشبیہ و جمع متکلم، بحث نفی جحد لَمْ در فعل مستقبل معروف۔

تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی۔

لَنْ تَسْمَعِي.

صیغہ: واحد موزنث حاضر، بحث نفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل معروف۔

تو ایک عورت نے نہیں سنا۔

لَمْ تَسْمَعِي.

صیغہ: واحد موزنث حاضر، بحث نفی جحد لَمْ در فعل مستقبل معروف۔

تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی۔

لَنْ تُتْرَكْنَ.

صیغہ: جمع مونث حاضر، بحث نفی تاکید ب لَم در فعل مستقبل مجہول.

تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئیں.

لَمْ تُتْرَكْنَ.

صیغہ: جمع مونث حاضر، بحث نفی جحد ب لَمْ در فعل مستقبل مجہول.

فصل (4) لام تاکید بانون تاکید کی گردان

1. افعال سابقہ بَجَبْتُ، لَمَّعْتُ، شَرَكْتُ وغیرہ سے نون ثقیلہ و خفیفہ کی گردان کرو.

يَجْتَنِبُ.

صیغہ	لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف	لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول	لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف	لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجہول
واحد مذکر عائب	كَيْجْتَنِبَنَّ	كَيْجْتَنِبَنَّ البتہ پرہیز کیا جبائے گا وہ ایک مرد ضرور	كَيْجْتَنِبَنَّ	كَيْجْتَنِبَنَّ البتہ پرہیز کیا جبائے گا وہ ایک مرد ضرور
تشبیہ مذکر عائب	كَيْجْتَنِبَانِ	كَيْجْتَنِبَانِ	—	—
جمع مذکر عائب	كَيْجْتَنِبُنَّ	كَيْجْتَنِبُنَّ	كَيْجْتَنِبُنَّ	كَيْجْتَنِبُنَّ
واحد مونث عائب	لَتَجْتَنِبَنَّ	لَتَجْتَنِبَنَّ البتہ پرہیز کرے گی وہ جبائے گی وہ ایک عورت ضرور بالضرور	لَتَجْتَنِبَنَّ	لَتَجْتَنِبَنَّ البتہ پرہیز کرے گی وہ جبائے گی وہ ایک عورت ضرور
تشبیہ مونث عائب	لَتَجْتَنِبَانِ	لَتَجْتَنِبَانِ	—	—
جمع مونث عائب	لَيَجْتَنِبْنَ	لَيَجْتَنِبْنَ	—	—

واحد مذکر حاضر	البت پر ہیز کرے گا تو ایک مرد ضرور بالضرور	البت پر ہیز کیا جائے گا تو ایک مرد ضرور بالضرور	البت پر ہیز کرے گا تو ایک مرد ضرور بالضرور	البت پر ہیز کیا جائے گا تو ایک مرد ضرور	البت پر ہیز کیا جائے گا تو ایک مرد ضرور
تشنیہ مذکر حاضر	—	—	—	—	—
جمع مذکر حاضر	—	—	—	—	—
واحد مونث حاضر	البت پر ہیز کرے گی تو ایک عورت ضرور بالضرور	البت پر ہیز کی جائے گی تو ایک عورت ضرور بالضرور	البت پر ہیز کرے گی تو ایک عورت ضرور بالضرور	البت پر ہیز کی جائے گی تو ایک عورت ضرور	البت پر ہیز کیا جائے گا تو ایک مرد ضرور
تشنیہ مونث حاضر	—	—	—	—	—
جمع مونث حاضر	—	—	—	—	—
واحد متکلم	البت پر ہیز کروں گا میں ایک مرد یا عورت ضرور بالضرور	البت پر ہیز کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت ضرور بالضرور	البت پر ہیز کروں گا میں ایک مرد یا عورت ضرور بالضرور	البت پر ہیز کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت ضرور بالضرور	البت پر ہیز کیا جائے گا میں ایک مرد یا عورت ضرور بالضرور
تشنیہ و جمع متکلم	—	—	—	—	—

يَسْعُ

صیغہ	لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف	لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول	لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف	لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول
واحد مذکر غائب	البت سنے گا وہ ایک مرد ضرور بالضرور	البت سنا جائے گا وہ ایک مرد ضرور	البت سنے گا وہ ایک مرد ضرور بالضرور	البت سنا جائے گا وہ ایک مرد ضرور

–	–	كَيْسَعَانَّ	كَيْسَعَانَّ	تشنیہ مذکر غائب
كَيْسَعُنَّ	كَيْسَعُنَّ	كَيْسَعُنَّ	كَيْسَعُنَّ	جمع مذکر غائب
لَكْسَعَنَّ البت سنی حباے گی وہ ایک عورت ضرور	لَكْسَعَنَّ البت سنی گی وہ ایک عورت ضرور	لَكْسَعَنَّ البت سنی حباے گی وہ ایک عورت ضرور بالضرور	لَكْسَعَنَّ البت سنی گی وہ ایک عورت ضرور بالضرور	واحد مونث غائب
–	–	لَكْسَعَانَّ	لَكْسَعَانَّ	تشنیہ مونث غائب
–	–	كَيْسَعَانَّ	كَيْسَعَانَّ	جمع مونث غائب
لَكْسَعَنَّ البت سنا حباے گا تو ایک مرد ضرور	لَكْسَعَنَّ البت سنی گا تو ایک مرد ضرور	لَكْسَعَنَّ البت سنا حباے گا تو ایک مرد ضرور بالضرور	لَكْسَعَنَّ البت سنی گا تو ایک مرد ضرور بالضرور	واحد مذکر حاضر
–	–	لَكْسَعَانَّ	لَكْسَعَانَّ	تشنیہ مذکر حاضر
لَكْسَعُنَّ	لَكْسَعُنَّ	لَكْسَعُنَّ	لَكْسَعُنَّ	جمع مذکر حاضر
لَكْسَعُنَّ البت سنی حباے گی تو ایک عورت ضرور	لَكْسَعُنَّ البت سنی گی تو ایک عورت ضرور	لَكْسَعُنَّ البت سنی حباے گی تو ایک عورت ضرور بالضرور	لَكْسَعُنَّ البت سنی گی تو ایک عورت ضرور بالضرور	واحد مونث حاضر
–	–	لَكْسَعَانَّ	لَكْسَعَانَّ	تشنیہ مونث حاضر
–	–	لَكْسَعَانَّ	لَكْسَعَانَّ	جمع مونث حاضر
لَاَسَعَنَّ البت سنا حباؤں گا میں ایک مرد یا عورت ضرور	لَاَسَعَنَّ البت سناؤں میں ایک مرد یا عورت ضرور	لَاَسَعَنَّ البت سنا حباؤں گا میں ایک مرد یا عورت ضرور بالضرور	لَاَسَعَنَّ البت سناؤں میں ایک مرد یا عورت ضرور بالضرور	واحد متکلم

تشنیہ و جمع متکلم	لَتَسْمَعَنَّ	لَتَسْمَعَنَّ	لَتَسْمَعَنَّ	لَتَسْمَعَنَّ
يَتَوَكَّلُ				

صيغہ	لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف	لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجهول	لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف	لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول
واحد مذکر غائب	لَيَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑا جائے گا وہ ایک مرد ضرور بالضرور	لَيَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑے گا وہ ایک مرد ضرور	لَيَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑا جائے گا وہ ایک مرد ضرور بالضرور	لَيَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑا جائے گا وہ ایک مرد ضرور بالضرور
تشنیہ مذکر غائب	لَيَتَوَكَّلَنَّ	لَيَتَوَكَّلَنَّ	لَيَتَوَكَّلَنَّ	لَيَتَوَكَّلَنَّ
جمع مذکر غائب	لَيَتَوَكَّلَنَّ	لَيَتَوَكَّلَنَّ	لَيَتَوَكَّلَنَّ	لَيَتَوَكَّلَنَّ
واحد مومنش غائب	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑی جائے گی وہ ایک عورت ضرور بالضرور	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑے گی وہ ایک عورت ضرور	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑی جائے گی وہ ایک عورت ضرور بالضرور	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑی جائے گی وہ ایک عورت ضرور بالضرور
تشنیہ مومنش غائب	لَتَتَوَكَّلَنَّ	لَتَتَوَكَّلَنَّ	لَتَتَوَكَّلَنَّ	لَتَتَوَكَّلَنَّ
جمع مومنش غائب	لَيَتَوَكَّلَنَّ	لَيَتَوَكَّلَنَّ	لَيَتَوَكَّلَنَّ	لَيَتَوَكَّلَنَّ
واحد مذکر حاضر	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑے گا تو ایک مرد ضرور بالضرور	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑے گا تو ایک مرد ضرور بالضرور	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑا جائے گا تو ایک مرد ضرور بالضرور	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑا جائے گا تو ایک مرد ضرور بالضرور
تشنیہ مذکر حاضر	لَتَتَوَكَّلَنَّ	لَتَتَوَكَّلَنَّ	لَتَتَوَكَّلَنَّ	لَتَتَوَكَّلَنَّ
جمع مذکر حاضر	لَتَتَوَكَّلَنَّ	لَتَتَوَكَّلَنَّ	لَتَتَوَكَّلَنَّ	لَتَتَوَكَّلَنَّ
واحد مومنش حاضر	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑے گی تو ایک عورت ضرور بالضرور	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑے گی تو ایک عورت ضرور	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑی جائے گی تو ایک عورت ضرور بالضرور	لَتَتَوَكَّلَنَّ البتہ چھوڑی جائے گی تو ایک عورت ضرور بالضرور

تثنیہ مونث حاضر	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ	—
جمع مونث حاضر	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ	—
واحد متکلم	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ البت چھوڑا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت ضرور
تثنیہ و جمع متکلم	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ	لَتُنُوْكَانَ البت چھوڑوں گا میں ایک مرد یا عورت ضرور

2. كَيْفَعَلْنَ، كَيْفَعَلْنَ، كَيْفَعَلْنَ مضارع کے کون کون سے صیغے سے اور کس طرح بنائے گئے ہیں۔

كَيْفَعَلْنَ: كَيْفَعَلْنَ اصل میں يَفْعَلُونَ ہتا شروع میں لام تاکید لائے اور آخر سے نون اعرابی کو اور واؤ کو گر کر نون ثقیلہ لائے تو كَيْفَعَلْنَ ہوا۔

كَيْفَعَلْنَ: كَيْفَعَلْنَ اصل میں تَفْعَلِينَ ہتا شروع میں لام تاکید لائے اور آخر سے نون اعرابی اور ی کو ختم کیا اور نون ثقیلہ لائے تو كَيْفَعَلْنَ ہوا۔

كَيْفَعَلْنَ: كَيْفَعَلْنَ اصل میں يَفْعَلْنَ ہتا شروع میں لام تاکید لائے اور آخر میں نون ثقیلہ لائے اور درمیان میں الف فاصلہ کالائے تاکہ صیغہ ثقیل نہ ہو جائے تو كَيْفَعَلْنَ ہوا۔

3. تَفْعَلْنَ، تَفْعَلُونَ، يَفْعَلْنَ، أَفْعَلْنَ سے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ بناؤ۔
نون ثقیلہ:

تَفْعَلْنَ: مضارع معروف جمع مونث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف کو بڑھا دو تاکہ جمع مونث کے نون اور نون ثقیلہ میں فاصلہ ہو جائے۔ شروع میں لام تاکید لگاتے ہیں جیسے: تَفْعَلْنَ سے كَيْفَعَلْنَ۔

تَفْعَلُونَ: مضارع معروف جمع مذکر حاضر کے صیغے سے واؤ اور نون اعرابی گر دو اور نون ثقیلہ لگا دو۔ شروع میں لام تاکید لگاتے ہیں۔ جیسے: تَفْعَلُونَ سے كَيْفَعَلْنَ۔

يَفْعَلْنَ: مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کے صیغے سے نون اعرابی گر کر نون ثقیلہ لگا دو۔ شروع میں لام تاکید لگانا ہے۔ جیسے: يَفْعَلْنَ سے كَيْفَعَلْنَ۔

أَفْعَلْنَ: مضارع معروف واحد متکلم کے صیغے میں آخر میں نون ثقیلہ لگانا ہے اس سے پہلے حرف پرزہ ہوتا ہے۔ شروع میں لام تاکید لگانا ہے۔ جیسے: أَفْعَلْنَ سے كَيْفَعَلْنَ۔

نون خفیفہ:

تَفْعَلْنَ: جمع مونث حاضر مضارع معروف سے نون خفیفہ کا کوئی صیغہ نہیں۔

تَفَعَّلُونَ: جمع مذکر حاضر مضارع معروف کے صیغے سے واؤ اور نون اعرابی گرا دو۔ اور نون خفیف لگا دو۔ شروع میں لام تاکید لگانا ہے۔ جیسے: تَفَعَّلُونَ سے لَتَفَعَّلُونَ۔

يَفْعَلَانِ: تشبیہ مذکر عنائب مضارع معروف سے نون خفیف کا صیغہ نہیں آتا۔

أَفْعَلُ: مضارع معروف واحد متکلم کے آخر میں نون خفیف لگانا ہے۔ اُس سے پہلے زبردینا ہے۔ شروع میں لام تاکید لگانا ہے۔ جیسے: أَفْعَلُ سے لَا أَفْعَلُنَّ۔

4. وہ سات صیغے کون سے ہیں جن سے نون اعرابی گرایا جاتا ہے۔

تشبیہ مذکر و مونث عنائب (2). تشبیہ مذکر و مونث حاضر (2). جمع مذکر عنائب (1). جمع مذکر حاضر (1). واحد مونث حاضر (1).

5. الف و ناصل کے کہتے ہیں؟

جمع مونث عنائب اور جمع مونث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو تاکہ نون جمع مونث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے سے صیغہ ثقیل نہ ہو جائے۔ اس الف کو الف و ناصل کہتے ہیں۔

6. **لَيَجْتَنِبْنَ، لَتَعْلَمَنَّ، لَنَسْمَعَنَّ، لَتَكُونَنَّ** کا اردو میں ترجمہ کریں۔

لَيَجْتَنِبْنَ:

ترجمہ: البتہ ضرور ضرور پر ہمیں نہ کریں گی وہ سب عورتیں۔

صیغہ: جمع مونث عنائب، بحش لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

لَتَعْلَمَنَّ:

ترجمہ: ضرور ضرور جانیں گے تم سب مرد۔

صیغہ: جمع مذکر حاضر، بحش لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

لَنَسْمَعَنَّ:

ترجمہ: ضرور ضرور سنیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔

صیغہ: تشبیہ و جمع متکلم، بحش لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

لَتَكُونَنَّ:

ترجمہ: ضرور ضرور چھوڑیں گے تم سب مرد۔

صیغہ: جمع مذکر حاضر، بحش لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

7. ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔

ہم ضرور ضرور لکھیں گے۔

لَنَكْتُبَنَّ:

صیغہ: تشبیہ و جمع متکلم، بحش لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

وہ دو مرد ضرور ضرور روکیں گے۔

لَيَبْنَعَنَّ:

صیغہ: تشبیہ مذکر عنائب، بحش لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی۔

لَتَجْتَنِبْنَآ

صیغہ: جمع موزنث حاضر، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔
وہ سب مرد ضرور ضرور جائیں گے۔

لَيَذُهْبَنَّ

صیغہ: جمع مذکر غائب، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔
تم دو عورتیں ضرور ضرور سنو گی۔

لَتَسْمَعَنَّ

صیغہ: تشبیہ موزنث حاضر، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔
وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی۔

لَتُنْزَكَنَّ

صیغہ: واحد موزنث غائب، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول۔
میں ایک مرد سنو گا۔

لَا سَمِعَنَّ

صیغہ: واحد مذکر متکلم، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔
وہ سب عورتیں ضرور ضرور جائیں گی۔

لَيَذُهْبَنَّ

صیغہ: جمع موزنث غائب، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

فصل (5) امر کی گردان

اِسْمَعُ، اُكْتَبْ، اِجْتَنِبْ سے امر کی پوری گردان کرو۔

اِسْمَعُ

صیغہ	امر معروف	امر مجہول	امر معروف	امر مجہول	امر معروف	امر مجہول بانون
واحد مذکر غائب	اِسْمَعُ	اِسْمَعُ	اِسْمَعُ	اِسْمَعُ	اِسْمَعُ	اِسْمَعُ
	چاہیے کہ سنو					
	ایک مرد	ایک مرد	ایک مرد ضرور	ایک مرد	ایک مرد	ایک مرد ضرور

تشنیہ مذکر غائب	لِئْسَعَا	لِئْسَعَا	لِئْسَعَانِ	لِئْسَعَانِ	لِئْسَعَانِ	****
جمع مذکر غائب	لِئْسَعُوا	لِئْسَعُوا	لِئْسَعُونَ	لِئْسَعُونَ	لِئْسَعُونَ	لِئْسَعُونَ
واحد مونث غائب	لِئْسَعِ	لِئْسَعِ	لِئْسَعَنَّ	لِئْسَعَنَّ	لِئْسَعَنَّ	لِئْسَعَنَّ
تشنیہ مونث غائب	لِئْسَعَا	لِئْسَعَا	لِئْسَعَانِ	لِئْسَعَانِ	لِئْسَعَانِ	****
جمع مونث غائب	لِئْسَعُونَ	لِئْسَعُونَ	لِئْسَعَاتِنَ	لِئْسَعَاتِنَ	لِئْسَعَاتِنَ	****
واحد مذکر حاضر	إِسْعِ	إِسْعِ	إِسْعَنَّ	إِسْعَنَّ	إِسْعَنَّ	لِئْسَعَنَّ
تشنیہ مذکر حاضر	إِسْعَا	إِسْعَا	إِسْعَانِ	إِسْعَانِ	إِسْعَانِ	****
جمع مذکر حاضر	إِسْعُوا	إِسْعُوا	إِسْعُونَ	إِسْعُونَ	إِسْعُونَ	لِئْسَعُونَ
واحد مونث حاضر	إِسْعِي	إِسْعِي	إِسْعِنِّي	إِسْعِنِّي	إِسْعِنِّي	لِئْسَعِنِّي
تشنیہ مونث حاضر	إِسْعَا	إِسْعَا	إِسْعَانِ	إِسْعَانِ	إِسْعَانِ	****
جمع مونث حاضر	إِسْعُونَ	إِسْعُونَ	إِسْعَاتِنَ	إِسْعَاتِنَ	إِسْعَاتِنَ	****
واحد متکلم	لِئْسَعِ	لِئْسَعِ	لِئْسَعَنَّ	لِئْسَعَنَّ	لِئْسَعَنَّ	لِئْسَعَنَّ

چاہیے کہ سنوں میں ایک سردیا عورت ضرور بالضرور	چاہیے کہ سنوں میں ایک سردیا عورت ضرور	چاہیے کہ سنا حباؤں میں ایک سردیا عورت ضرور بالضرور	چاہیے کہ سنوں میں ایک سردیا عورت ضرور بالضرور	چاہیے کہ سنا حباؤں میں ایک سردیا عورت	چاہیے کہ سنوں میں ایک سردیا عورت	تشہیر و جمع متکلم اُنْتُبُ
لِنُسَعِّنَ	لِنُسَعِّنَ	لِنُسَعِّنَ	لِنُسَعِّنَ	لِنُسَعِّنَ	لِنُسَعِّنَ	

اُنْتُبُ

صیغہ	امر معروف	امر مجہول	امر معروف	امر مجہول	امر معروف	امر مجہول
واحد مذکر غائب	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک مرد	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک مرد	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک مرد بالضرور	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک مرد بالضرور	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک مرد	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک مرد ضرور
تشہیر مذکر غائب	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا
جمع مذکر غائب	لِيَكْتُبُوا	لِيَكْتُبُوا	لِيَكْتُبُوا	لِيَكْتُبُوا	لِيَكْتُبُوا	لِيَكْتُبُوا
واحد مؤنث غائب	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک عورت	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک عورت ضرور	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک عورت بالضرور	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک عورت بالضرور	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک عورت	لِيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے وہ ایک عورت ضرور
تشہیر مؤنث غائب	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا	لِيَكْتُبَا
جمع مؤنث غائب	لِيَكْتُبْنَ	لِيَكْتُبْنَ	لِيَكْتُبْنَ	لِيَكْتُبْنَ	لِيَكْتُبْنَ	لِيَكْتُبْنَ
واحد مذکر حاضر	اُنْتُبْ لکھ تو ایک مرد ضرور	اُنْتُبْ لکھ تو ایک مرد ضرور	اُنْتُبْ لکھ تو ایک مرد ضرور بالضرور	اُنْتُبْ لکھ تو ایک مرد ضرور بالضرور	اُنْتُبْ لکھ تو ایک مرد ضرور	اُنْتُبْ لکھ تو ایک مرد ضرور

ایک مرد ضرور	ایک مرد ضرور بالضرور	حائے تو ایک مرد			
****	****	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَا	اُنْتَبَا
اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَا	اُنْتَبَا
اُنْتَبَانِ چاہیے کہ لکھی حائے تو ایک عورت ضرور	اُنْتَبَانِ لکھ تو ایک عورت ضرور	اُنْتَبَانِ چاہیے کہ لکھی حائے تو ایک عورت ضرور بالضرور	اُنْتَبَانِ لکھ تو ایک عورت ضرور بالضرور	اُنْتَبَانِ چاہیے کہ لکھی حائے تو ایک عورت	اُنْتَبَانِ لکھ تو ایک عورت
****	****	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَا	اُنْتَبَا
****	****	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ
اُنْتَبَانِ چاہیے کہ لکھی حائے تو ایک عورت ضرور	اُنْتَبَانِ چاہیے کہ لکھی میں ایک مرد یا عورت ضرور	اُنْتَبَانِ چاہیے کہ لکھی حائے تو ایک عورت ضرور بالضرور	اُنْتَبَانِ چاہیے کہ لکھی میں ایک مرد یا عورت ضرور بالضرور	اُنْتَبَانِ چاہیے کہ لکھی حائے تو ایک عورت	اُنْتَبَانِ چاہیے کہ لکھی میں ایک مرد یا عورت
اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ	اُنْتَبَانِ

اجتنب.

امر مجهول بانون خفيف	امر معروف بانون خفيف	امر مجهول بانون ثقيل	امر معروف بانون ثقيل	امر مجهول	امر معروف	صيغ
لِيَجْتَنِبَنَّ چاہیے کہ پرہیز کیا حائے وہ ایک مرد ضرور	لِيَجْتَنِبَنَّ چاہیے کہ پرہیز کرے وہ ایک مرد ضرور	لِيَجْتَنِبَنَّ چاہیے کہ پرہیز کیا حائے وہ ایک مرد ضرور بالضرور	لِيَجْتَنِبَنَّ چاہیے کہ پرہیز کرے وہ ایک مرد ضرور بالضرور	لِيَجْتَنِبَنَّ چاہیے کہ پرہیز کیا حائے وہ	لِيَجْتَنِبَنَّ چاہیے کہ پرہیز کرے وہ ایک مرد	واحد مذکر غائب

				ایک مرد		
****	****	لِيُجْتَنَبَاَنِ	لِيُجْتَنَبَاَنِ	لِيُجْتَنَبَا	لِيُجْتَنَبَا	تشنیہ مذکر غائب
لِيُجْتَنَبُنْ	لِيُجْتَنَبُنْ	لِيُجْتَنَبُنْ	لِيُجْتَنَبُنْ	لِيُجْتَنَبُوا	لِيُجْتَنَبُوا	جمع مذکر غائب
لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کی جائے وہ ایک عورت ضرور	لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کرے وہ ایک عورت ضرور	لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کی جائے وہ ایک عورت ضرور بالضرور	لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کرے وہ ایک عورت ضرور بالضرور	لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کی جائے وہ ایک عورت	لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کرے وہ ایک عورت	واحد مونث غائب
****	****	لِيُجْتَنَبَاَنِ	لِيُجْتَنَبَاَنِ	لِيُجْتَنَبَا	لِيُجْتَنَبَا	تشنیہ مونث غائب
****	****	لِيُجْتَنَبَاَنِ	لِيُجْتَنَبَاَنِ	لِيُجْتَنَبُنْ	لِيُجْتَنَبُنْ	جمع مونث غائب
لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کیا جائے تو ایک مرد ضرور	لِيُجْتَنَبُنْ پرہیز کر تو ایک مرد ضرور	لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کیا جائے تو ایک مرد ضرور بالضرور	لِيُجْتَنَبُنْ پرہیز کر تو ایک مرد ضرور بالضرور	لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کیا جائے تو ایک مرد	لِيُجْتَنَبُنْ پرہیز کر تو ایک مرد	واحد مذکر حاضر
****	****	لِيُجْتَنَبَاَنِ	اِجْتَنَبَاَنِ	لِيُجْتَنَبَا	اِجْتَنَبَا	تشنیہ مذکر حاضر
لِيُجْتَنَبُنْ	اِجْتَنَبُنْ	لِيُجْتَنَبُنْ	اِجْتَنَبُنْ	لِيُجْتَنَبُوا	اِجْتَنَبُوا	جمع مذکر حاضر
لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کی جائے تو ایک عورت ضرور	اِجْتَنَبُنْ پرہیز کر تو ایک عورت ضرور	لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کی جائے تو ایک عورت ضرور بالضرور	اِجْتَنَبُنْ پرہیز کر تو ایک عورت ضرور بالضرور	لِيُجْتَنَبُنْ چاہیے کہ پرہیز کی جائے تو ایک عورت	اِجْتَنَبُنْ پرہیز کر تو ایک عورت	واحد مونث حاضر

تشنیہ مونث حاضر	اِجْتَنِبَا	لِجْتَنِبَا	اِجْتَنِبَانِ	لِجْتَنِبَانِ	****	****
جمع مونث حاضر	اِجْتَنِبْنَ	لِجْتَنِبْنَ	اِجْتَنِبَانِ	لِجْتَنِبَانِ	****	****
واحد منکلم	لِاِجْتَنِبْ چاہیے کہ پرہیز کیا کروں میں ایک مرد یا عورت	لِاِجْتَنِبْ چاہیے کہ پرہیز کیا کروں میں ایک مرد یا عورت ضرور	لِاِجْتَنِبْنَ چاہیے کہ پرہیز کیا کروں میں ایک مرد یا عورت ضرور	لِاِجْتَنِبْنَ چاہیے کہ پرہیز کیا کروں میں ایک مرد یا عورت ضرور	لِاِجْتَنِبْنَ چاہیے کہ پرہیز کیا کروں میں ایک مرد یا عورت ضرور	لِاِجْتَنِبْنَ چاہیے کہ پرہیز کیا کروں میں ایک مرد یا عورت ضرور
تشنیہ و جمع منکلم	لِجْتَنِبْ	لِجْتَنِبْ	لِجْتَنِبْنَ	لِجْتَنِبْنَ	لِجْتَنِبْنَ	لِجْتَنِبْنَ

2. لام تاکید اور لام امر میں کیا فرق ہے؟

لام تاکید مفتوح ہوتا ہے۔ اسکے معنی "ضرور" کے ہیں۔ لام امر مکسور ہوتا ہے۔ اسکے معنی "چاہیے کہ" ہیں۔

3. امر حاضر معروف بنانے کا تاعدہ بیان کریں۔

مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع "تا" کو گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو۔ اگر حرف علت نہ ہو۔ مثلاً تَعْلَمُ سے عَلِمَ، تَضَعُ سے ضَعَّ، اگر حرف علت ہو تو گرا دو۔ مثلاً تَقِي سے قَى، اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے۔ تو عین کلمہ کو دیکھو۔ اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے تو ہمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو۔ اگر حرف علت نہ ہو۔ مثلاً تَضْرِبُ سے اِضْرِبْ، تَسْمَعُ سے اِسْمَعْ، اگر حرف علت ہو تو گرا دو۔ مثلاً اَتْرَمِي سے اِزْمِرْ، تَخْشِي سے اِخْشِ، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو ہمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو۔ اگر حرف علت نہ ہو مثلاً اَنْصُرُ سے اَنْصُرْ، اگر حرف علت ہو تو گرا دو مثلاً تَدْعُو سے اُدْعُ

4. ہمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟

وہ ہمزہ جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے جیسے فَاطَلْبُ کی بجائے فَاطَلْبُ پڑھا جائے گا۔

5. فترات کا معنی بیان کریں۔

لِيَكْتُبُوا.

چاہیے کہ لکھیں وہ سب مرد۔

صیغہ: جمع مذکر غائب، امر غائب معروف۔

لَعْنَةُ كُؤَا.

ترجمہ: چاہیے کہ چھوڑے جاؤ تم سب مرد۔

صیغہ: جمع مذکر حاضر، امر حاضر مجہول۔

اَلْمُرُؤَا.

ترجمہ: چھوڑو تم سب مرد۔

صیغہ: جمع مذکر حاضر، امر حاضر معروف۔

لَتَعْلَمَنَّ.

ترجمہ: چاہیے کہ ضرور بالضرور جانے وہ ایک عورت۔

صیغہ: واحد مؤنث غائب، امر غائب معروف بانون ثقیلہ۔

اِمْنَعَنَّ.

ترجمہ: ضرور بالضرور روکے تو ایک عورت۔

صیغہ: واحد مؤنث حاضر، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

لَا تَكْتَبَنَّ.

ترجمہ: ضرور لکھوں میں ایک مرد یا عورت۔

صیغہ: واحد متکلم، امر معروف بانون ثقیلہ۔

اِحْلُوا.

ترجمہ: جانو تم سب مرد۔

صیغہ: جمع مذکر حاضر، امر حاضر معروف۔

لِيَسْتَعَنَّ.

ترجمہ: چاہیے کہ ضرور روکے وہ ایک مرد۔

صیغہ: واحد مذکر غائب، امر غائب معروف بانون ثقیلہ۔

اَتْرُكَنَّ.

ترجمہ: ضرور چھوڑو تم سب عورتیں۔

صیغہ: جمع مؤنث حاضر، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

لِيَسْتَعَنَّ.

ترجمہ: چاہیے کہ ضرور سنیں وہ دو مرد۔

صیغہ: تشنیه مذکر غائب، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

لَعْنَةُ كُؤَا.

ترجمہ: چاہیے کہ چھوڑے جاؤ تم سب مرد۔

صیغہ: جمع مذکر حاضر، امر حاضر مجہول۔

4. ذیل کے جملوں کو عربی میں استعمال کریں۔

تم لوگ لکھو۔

اَلتُّبُوْا۔

صیغہ: جمع مذکر حاضر، امر حاضر معروف۔

تم لوگ ضرور لکھو۔

اَلتُّبْنَ۔

صیغہ: جمع مذکر حاضر، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں۔

اَلْيَجْتَنِبْنَ۔

صیغہ: جمع مؤنث غائب، امر غائب معروف بانون ثقیلہ۔

تو ایک عورت چھوڑ۔

اَلتَّرْكِ۔

صیغہ: واحد مؤنث حاضر، امر حاضر معروف۔

چاہیے کہ دو عورتیں سنیں۔

اَلتَّسْعَا۔

صیغہ: تشنیہ مؤنث غائب، امر غائب معروف۔

چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں۔

اَلتَّوَكَّنَ۔

صیغہ: تشنیہ جمع متکلم، امر غائب معروف بانون ثقیلہ۔

تم سب عورتیں سنو۔

اَلسَّعْنَ۔

صیغہ: جمع مؤنث حاضر، امر غائب معروف۔

تم سب عورتیں ضرور سنو۔

اَلسَّعْنَ۔

صیغہ: جمع مؤنث حاضر، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

تو ایک سروروک۔

إِصْنَعُ.

صیغہ: واحد مذکر حاضر، امر حاضر معروف۔

حیاطیہ کہ وہ سب سروروروکیں۔

لِيَهْنَعَنَّ.

صیغہ: جمع مذکر غائب، امر غائب معروف بانون ثقیلہ۔

تم دو سروروروکو۔

إِصْنَعَانِ.

صیغہ: تشنیہ مذکر حاضر، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

فصل (6) نہی کی گردان

لَا يُجْتَنَبُ، لَا يُتْرَكُ، لَا يَنْتَعِجُ سے پوری گردان کرو۔

لَا يُجْتَنَبُ.

صیغہ	نہی معروف	نہی مجہول	نہی معروف بانون ثقیلہ	نہی مجہول بانون خفیف	نہی معروف بانون خفیف	نہی مجہول بانون خفیف
واحد مذکر غائب	لَا يُجْتَنَبُ					
مت پرہیز کرے وہ ایک مرد						
تشنیہ مذکر غائب	لَا يُجْتَنَبَا	لَا يُجْتَنَبَا	لَا يُجْتَنَبَانِ	لَا يُجْتَنَبَانِ	لَا يُجْتَنَبَانِ	لَا يُجْتَنَبَانِ
جمع مذکر غائب	لَا يُجْتَنَبُوا	لَا يُجْتَنَبُوا	لَا يُجْتَنَبُونَ	لَا يُجْتَنَبُونَ	لَا يُجْتَنَبُونَ	لَا يُجْتَنَبُونَ
واحد مؤنث غائب	لَا تُجْتَنَبُ					
مت پرہیز کرے وہ ایک عورت						
تشنیہ مؤنث غائب	لَا تُجْتَنَبَا	لَا تُجْتَنَبَا	لَا تُجْتَنَبَانِ	لَا تُجْتَنَبَانِ	لَا تُجْتَنَبَانِ	لَا تُجْتَنَبَانِ
****	****	****	****	****	****	****

جمع مونث غائب	لَا يُجْتَنِبُنَّ	لَا يُجْتَنِبْنَ	لَا يُجْتَنِبْنَ	لَا يُجْتَنِبْنَ	لَا يُجْتَنِبْنَ	****
واحد مذکر حاضر	لَا يُجْتَنِبُ مت پر ہیز کر تو ایک مرد	لَا يُجْتَنِبُ سہ پر ہیز کیا جائے تو ایک مرد	لَا يُجْتَنِبُ ہرگز ہرگز نہ پر ہیز کرے تو ایک مرد	لَا يُجْتَنِبُ ہرگز ہرگز نہ پر ہیز کیا جائے تو ایک مرد	لَا يُجْتَنِبُ ہرگز نہ پر ہیز کرے تو ایک مرد	لَا يُجْتَنِبُ ہرگز نہ پر ہیز کرے تو ایک مرد
تثنیہ مذکر حاضر	لَا يُجْتَنِبَا	لَا يُجْتَنِبَا	لَا يُجْتَنِبَانِ	لَا يُجْتَنِبَانِ	لَا يُجْتَنِبَانِ	****
جمع مذکر حاضر	لَا يُجْتَنِبُوا	لَا يُجْتَنِبُوا	لَا يُجْتَنِبُونَ	لَا يُجْتَنِبُونَ	لَا يُجْتَنِبُونَ	****
واحد مونث حاضر	لَا يُجْتَنِبِي مت پر ہیز کر تو ایک عورت	لَا يُجْتَنِبِي سہ پر ہیز کی جائے تو ایک عورت	لَا يُجْتَنِبِي ہرگز ہرگز نہ پر ہیز کرے تو ایک عورت	لَا يُجْتَنِبِي ہرگز ہرگز نہ پر ہیز کی جائے تو ایک عورت	لَا يُجْتَنِبِي ہرگز نہ پر ہیز کرے تو ایک عورت	لَا يُجْتَنِبِي ہرگز نہ پر ہیز کرے تو ایک عورت
تثنیہ مونث حاضر	لَا يُجْتَنِبَا	لَا يُجْتَنِبَا	لَا يُجْتَنِبَانِ	لَا يُجْتَنِبَانِ	لَا يُجْتَنِبَانِ	****
جمع مونث حاضر	لَا يُجْتَنِبْنَ	لَا يُجْتَنِبْنَ	لَا يُجْتَنِبْنَ	لَا يُجْتَنِبْنَ	لَا يُجْتَنِبْنَ	****
واحد متکلم	لَا أُجْتَنِبُ سہ پر ہیز کیا جاؤں میں ایک مرد یا عورت	لَا أُجْتَنِبُ ہرگز ہرگز نہ پر ہیز کروں میں ایک مرد یا عورت	لَا أُجْتَنِبُ ہرگز ہرگز نہ پر ہیز کیا جاؤں میں ایک مرد یا عورت	لَا أُجْتَنِبُ ہرگز نہ پر ہیز کروں میں ایک مرد یا عورت	لَا أُجْتَنِبُ ہرگز نہ پر ہیز کروں میں ایک مرد یا عورت	لَا أُجْتَنِبُ ہرگز نہ پر ہیز کروں میں ایک مرد یا عورت
تثنیہ و جمع متکلم	لَا يُجْتَنِبُ	لَا يُجْتَنِبُ	لَا يُجْتَنِبُ	لَا يُجْتَنِبُ	لَا يُجْتَنِبُ	لَا يُجْتَنِبُ

لَا يُتَوَكَّنْ.

صیغہ	نہی معروف	نہی مجہول	نہی معروف بانون	نہی مجہول بانون	نہی معروف بانون	نہی مجہول بانون
واحد مذکر غائب	لَا يُتَوَكَّنْ مت چھوڑے وہ ایک مرد	لَا يُتَوَكَّنْ مت چھوڑا جائے وہ ایک مرد	لَا يُتَوَكَّنْ ہرگز ہرگز نہ چھوڑے وہ ایک مرد	لَا يُتَوَكَّنْ ہرگز ہرگز نہ چھوڑا جائے وہ ایک مرد	لَا يُتَوَكَّنْ ہرگز نہ چھوڑے وہ ایک مرد	لَا يُتَوَكَّنْ ہرگز نہ چھوڑے وہ ایک مرد

لَا تُؤْكِنُ	لَا تُؤْكِنُ	لَا تُؤْكِنُ	لَا تُؤْكِنُ	لَا تُؤْكِنُ	لَا تُؤْكِنُ	تشنید و جمع مکمل لَا يُنْعِغُ
نہی مجہول بانوں خفیف	نہی معروف بانوں خفیف	نہی مجہول بانوں ثقیلہ	نہی معروف بانوں ثقیلہ	نہی مجہول	نہی معروف	صیغہ
لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکا جبائے وہ ایک مرد	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکے وہ ایک مرد	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکا جبائے وہ ایک مرد	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکے وہ ایک مرد	لَا يُنْعِنُ مت روکا جبائے وہ ایک مرد	لَا يُنْعِنُ مت روکے وہ ایک مرد	واحد مذکر غائب
****	****	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنَا	لَا يُنْعِنَا	تشنید مذکر غائب
لَا يُنْعِنُ	لَا يُنْعِنُ	لَا يُنْعِنُ	لَا يُنْعِنُ	لَا يُنْعِنُوا	لَا يُنْعِنُوا	جمع مذکر غائب
لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکی جبائے وہ ایک عورت	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکے وہ ایک عورت	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکی جبائے وہ ایک عورت	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکے وہ ایک عورت	لَا يُنْعِنُ مت روکی جبائے وہ ایک عورت	لَا يُنْعِنُ مت روکے وہ ایک عورت	واحد مؤنث غائب
****	****	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنَا	لَا يُنْعِنَا	تشنید مؤنث غائب
****	****	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنُ	لَا يُنْعِنُ	جمع مؤنث غائب
لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکا جبائے تو ایک مرد	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکے تو ایک مرد	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکا جبائے تو ایک مرد	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکے تو ایک مرد	لَا يُنْعِنُ مت روکا جبائے تو ایک مرد	لَا يُنْعِنُ مت روک تو ایک مرد	واحد مذکر حاضر
****	****	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنَا	لَا يُنْعِنَا	تشنید مذکر حاضر
لَا يُنْعِنُ	لَا يُنْعِنُ	لَا يُنْعِنُ	لَا يُنْعِنُ	لَا يُنْعِنُوا	لَا يُنْعِنُوا	جمع مذکر حاضر
لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکی جبائے تو ایک عورت	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکے تو ایک عورت	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکی جبائے تو ایک عورت	لَا يُنْعِنُ ہرگز نہ روکے تو ایک عورت	لَا يُنْعِنُ مت روکی جبائے تو ایک عورت	لَا يُنْعِنُ مت روک تو ایک عورت	واحد مؤنث حاضر
****	****	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنَانِ	لَا يُنْعِنَا	لَا يُنْعِنَا	تشنید مؤنث حاضر

جمع مونث حاضر	لَا تُنْعَنَنَّ	جمع مونث حاضر				
مت روکوں میں ایک مرد یا عورت	مت روکا جاؤں میں ایک مرد یا عورت	مت روکا جاؤں میں ایک مرد یا عورت	مت روکا جاؤں میں ایک مرد یا عورت	مت روکا جاؤں میں ایک مرد یا عورت	مت روکا جاؤں میں ایک مرد یا عورت	مت روکوں میں ایک مرد یا عورت
تشنیہ و جمع متکلم	تشنیہ و جمع متکلم	تشنیہ و جمع متکلم	تشنیہ و جمع متکلم	تشنیہ و جمع متکلم	تشنیہ و جمع متکلم	تشنیہ و جمع متکلم

2. اردو میں ترجمہ کریں۔

لَا تُنْعَنَنَّوَا.

مت منع کرو تم سب مرد۔

صیغہ: جمع مذکر حاضر، نہی حاضر معروف۔

لَا يَتَوَكَّنَنَّ.

مت چھوڑیں وہ سب عورتیں۔

صیغہ: جمع مونث غائب، نہی غائب معروف۔

لَا يَجْتَنِبَنَّ.

مت پرہیز کریں وہ دو مرد۔

صیغہ: تشنیہ مذکر غائب، نہی غائب معروف۔

لَا يَجْتَنِبَنَّ.

ترجمہ: ہر گز ہر گز نہ پرہیز کریں وہ دو مرد

صیغہ: تشنیہ مذکر غائب، نہی غائب معروف بانون ثقیلہ

لَا تُنْعِي.

مت روک تو ایک عورت۔

صیغہ: واحد مونث حاضر، نہی حاضر معروف۔

لَا تَتَوَكَّنَنَّ.

مت چھوڑو تم سب عورتیں۔

صیغہ: جمع مونث حاضر، نہی حاضر معروف۔

لَا تَتَوَكَّنَنَّ.

ہر گز نہ چھوڑیں تم سب عورتیں۔

صیغہ: جمع مونث حاضر، نہی حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

لَا تَعْلَمَنَّ.

ہر گز نہ جانے وہ ایک عورت۔

صیغہ: واحد مونث غائب، نہی غائب معروف بانون ثقیلہ۔

3. عربی میں ترجمہ کریں۔

تو ایک عورت ہرگز نہ روک۔

لَا تَمْنَعَنَّ.

صیغہ: واحد مونث حاضر، نہی حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

وہ سب عورتیں ہرگز نہ چھوڑیں۔

لَا يَتْرُكْنَ.

صیغہ: جمع مونث غائب، نہی غائب معروف بانون ثقیلہ۔

میں ہرگز پرہیز نہ کروں۔

لَا أَجْتَنِبَنَّ.

صیغہ: واحد متکلم، نہی غائب معروف بانون ثقیلہ۔

تم لوگ ہرگز نہ روکو۔

لَا تَمْنَعَنَّ.

صیغہ: جمع مذکر حاضر، نہی حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں۔

لَا تَكْتُبَانِ.

صیغہ: تشنیه مونث غائب، نہی غائب معروف بانون ثقیلہ۔

مشرق۔

غنی تاکید ب لَن، لام تاکید بانون تاکید، امر بانون تاکید، نہی بانون تاکید۔

اردو میں ترجمہ کریں۔

لَنْ أَضْرِبَ.

ترجمہ: ہرگز نہیں ماروں گا میں ایک مرد یا عورت۔

صیغہ: واحد متکلم، بجز غنی تاکید ب لَن در فعل مستقبل معروف۔

لَا أَضْرِبَنَّ.

ترجمہ: البتہ ضرور بالضرور ماروں گا میں ایک مرد یا عورت۔

صیغہ: واحد متکلم، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

لَا أَضْرِبَنَّ.

ترجمہ: ہرگز نہ ماروں میں ایک مرد یا عورت۔

صیغہ: واحد متکلم، نہی معروف بانون ثقیلہ۔

لَا أَضْرِبَنَّ.

ترجمہ: چاہیے کہ ضرور ضرور ماروں میں ایک مرد یا عورت۔

صیغہ: واحد متکلم، امر معروف بانون ثقیلہ۔

لَيْسَ سَعْنًا.

ترجمہ: البتہ ضرور ضرور سے گا وہ ایک مرد۔

صیغہ: واحد مذکر غائب، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

لَا يَسْمَعَنَّ

ترجمہ: ہرگز نہ سنے وہ ایک مسرد۔

صیغہ: واحد مذکر غائب، نہی غائب معروف بانون ثقیلہ۔

لَنْ يَسْمَعَ

ترجمہ: ہرگز نہیں سنے گا وہ ایک مسرد۔

صیغہ: واحد مذکر غائب، بحث نفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل معروف۔

لَيْسَ سَمِعَنَّ

ترجمہ: ضرور ضرور سنے گا وہ ایک مسرد۔

صیغہ: واحد مذکر غائب، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

لَا تَكُنَّ عَنَّ

ترجمہ: ہرگز نہ رو کے تو ایک مسرد / ہرگز نہ رو کے وہ ایک عورت۔

صیغہ: واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب، نہی حاضر و غائب معروف بانون ثقیلہ۔

لَا تَسْمَعَنَّ

ترجمہ: ہرگز نہ سنے وہ ایک عورت / ہرگز نہ سنے تو ایک مسرد

صیغہ: واحد مونث غائب / واحد مذکر حاضر، نہی غائب و حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

لَمْ تَتَنَعَّ

ترجمہ: نہیں روکا تو ایک مسرد نے / نہیں روکا اس ایک عورت نے۔

صیغہ: واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب، بحث نفی جہد لَمْ در فعل مستقبل معروف۔

لَتَكُنَّ عَنَّ

ترجمہ: البتہ ضرور ضرور رو کے گی وہ ایک عورت / ضرور ضرور رو کے گا تو ایک مسرد۔

صیغہ: واحد مونث غائب / واحد مذکر حاضر، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔

إِمْنَعَنَّ

ترجمہ: ضرور روک تو ایک مسرد۔

صیغہ: واحد مذکر حاضر، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ۔

عربی میں ترجمہ کریں۔

ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں۔

لَنْ يَسْمَعَنَّ

صیغہ: جمع مونث غائب، بحث نفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل معروف

ہرگز نہ سنیں وہ سب عورتیں۔

لَا يَسْمَعَنَّانَ

صیغہ: جمع مونث غائب، نہی غائب معلوم بانون ثقیلہ۔

ضرور ضرور سنیں گی وہ سب عورتیں۔

لَيْسَ سَعْنَانِ

صیغہ: جمع مونث غائب، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف

چاہیے کہ ضرور سنیں وہ سب عورتیں۔

لَيْسَ سَعْنَانِ

صیغہ: جمع مونث غائب، امر غائب معروف

ہرگز نہ چھوڑو تم سب مرد۔

لَا تَتْرُكُنَّ

صیغہ: جمع مذکر حاضر، فعل نہی حاضر معروف

ہرگز نہ چھوڑو گے سب مرد۔

لَنْ تَتْرُكُوا

صیغہ: جمع مذکر حاضر، فعل نفی تاکید لَنْ در فعل مستقبل معروف

ضرور ضرور چھوڑو گے تم سب مرد۔

لَتَتْرُكُنَّ

صیغہ: جمع مذکر حاضر، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف

ضرور ضرور پرہیز کریں گے وہ سب مرد۔

لَيَجْتَنِبَنَّ

صیغہ: جمع مذکر غائب، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف

چاہیے کہ ضرور پرہیز کریں وہ سب مرد۔

لَيَجْتَنِبَنَّ / لَيَجْتَنِبَنَّ

صیغہ: جمع مذکر غائب، امر غائب معروف۔

فصل (7) اسم و فعل

1. سَامِعٌ، مُجْتَنِبٌ، مُنْتَصِرٌ، مُتَّقِبٌ کی گردان کرو۔

سَامِعٌ

جمع	تثنیہ	واحد	صیغہ
سَامِعُونَ سننے والے سب مرد	سَامِعَانِ سننے والے دو مرد	سَامِعٌ سننے والا ایک مرد	مذکر
سَامِعَاتٌ سننے والی سب عورتیں	سَامِعَاتَانِ سننے والی دو عورتیں	سَامِعَةٌ سننے والی ایک عورت	مونث

جمع	تثنيه	واحد	صيغہ
مُجْتَنِبُونَ	مُجْتَنِبَانِ	مُجْتَنِبٌ	مذکر
پرہیز کرنے والے سب مرد	پرہیز کرنے والے دو مرد	پرہیز کرنے والا ایک مرد	
مُجْتَنِبَاتٌ	مُجْتَنِبَاتَانِ	مُجْتَنِبَةٌ	مونث
پرہیز کرنے والی سب عورتیں	پرہیز کرنے والی دو عورتیں	پرہیز کرنے والی ایک عورت	

جمع	تثنيه	واحد	صيغہ
مُنْتَصِرُونَ	مُنْتَصِرَانِ	مُنْتَصِرٌ	مذکر
مدد کرنے والے سب مرد	مدد کرنے والے دو مرد	مدد کرنے والا ایک مرد	
مُنْتَصِرَاتٌ	مُنْتَصِرَاتَانِ	مُنْتَصِرَةٌ	مونث
مدد کرنے والی سب عورتیں	مدد کرنے والی دو عورتیں	مدد کرنے والی ایک عورت	

جمع	تثنيه	واحد	صيغہ
مُتَقَبِّلُونَ	مُتَقَبِّلَانِ	مُتَقَبِّلٌ	مذکر
قبول کرنے والے سب مرد	قبول کرنے والے دو مرد	قبول کرنے والا ایک مرد	
مُتَقَبِّلَاتٌ	مُتَقَبِّلَاتَانِ	مُتَقَبِّلَةٌ	مونث
قبول کرنے والی سب عورتیں	قبول کرنے والی دو عورتیں	قبول کرنے والی ایک عورت	

2. عَالِمُونَ، مُجْتَنِبَةٌ، تَارِكَاتٌ، مَانِعَانِ کے معنی بتاؤ۔

ترجمہ: جاننے والے سب مرد۔

صيغہ: جمع مذکر، اسم فاعل۔

ترجمہ: پرہیز کرنے والی ایک عورت۔

صیغہ: واحد مونث، اسم فاعل۔

تَارِكَةٌ.

ترجمہ: چھوڑنے والی سب عورتیں۔

صیغہ: جمع مونث، اسم فاعل۔

مَائِعَانٍ.

ترجمہ: روکنے والے دوسرو۔

صیغہ: تشبیہ مذکر، اسم فاعل۔

3. ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔

دو عورتیں چھوڑنے والی۔

تَارِكَتَانِ

صیغہ: تشبیہ مونث، اسم فاعل

سب عورتیں پرہیز کرنے والی۔

مُجْتَنِبَاتٌ

صیغہ: جمع مونث، اسم فاعل۔

دو مرد لکھنے والے۔

كَاتِبَانِ.

صیغہ: تشبیہ مذکر، اسم فاعل۔

سب مرد روکنے والے۔

مَائِعُونَ.

صیغہ: جمع مذکر، اسم فاعل۔

ایک عورت سننے والی۔

سَامِعَةٌ

صیغہ: واحد مونث، اسم فاعل

دو عورتیں پرہیز کرنے والی۔

مُجْتَنِبَتَانِ

صیغہ: تشنیہ مونث، اسم فاعل۔

دو مرد سنے والے۔

سَامِعَانِ

صیغہ: تشنیہ مذکر، اسم فاعل۔

سب عورتیں روکنے والی۔

مَانِعَاتُ

صیغہ: جمع مونث، اسم فاعل۔

فصل (8) اسم مفعول

1. مُجْتَنِبٌ، مُسْتَنْصِرٌ، مُتَقَبِّلٌ کی پوری گردان کرو۔

مُجْتَنِبٌ

صیغے	واحد	تثنیہ	جمع
مذکر	مُجْتَنِبٌ پرہیز کیا ہوا ایک مرد	مُجْتَنِبَانِ پرہیز کیے ہوئے دو مرد	مُجْتَنِبُونَ پرہیز کیے ہوئے سب مرد
مونث	مُجْتَنِبَةٌ پرہیز کی ہوئی ایک عورت	مُجْتَنِبَتَانِ پرہیز کی ہوئیں دو عورتیں	مُجْتَنِبَاتٌ پرہیز کی ہوئیں سب عورتیں

مُسْتَنْصِرٌ

صیغے	واحد	تثنیہ	جمع
مذکر	مُسْتَنْصِرٌ مدد کیا ہوا ایک مرد	مُسْتَنْصِرَانِ مدد کیے ہوئے دو مرد	مُسْتَنْصِرُونَ مدد کیے ہوئے سب مرد
مونث	مُسْتَنْصِرَةٌ مدد کی ہوئی ایک عورت	مُسْتَنْصِرَاتٍ مدد کی ہوئیں دو عورتیں	مُسْتَنْصِرَاتٌ مدد کی ہوئیں سب عورتیں

صیغے	واحد	تثنیہ	جمع
مذکر	مُتَقَبِّلٌ قبول کیا ہوا ایک مرد	مُتَقَبِّلَانِ	مُتَقَبِّلُونَ

مُتَقَبَّلَاتٌ	مُتَقَبَّلَتَانِ	مُتَقَبَّلَةٌ قبول کی ہوئی ایک عورت	مونث
----------------	------------------	--	------

2. الفاظ ذیل کے معنی بتاؤ۔

مَسْبُوعُونَ، مَعْلُومَاتٌ، مَتْرُوكَةٌ، مَنصُورَانِ.

مَسْبُوعُونَ:

ترجمہ: سنے ہوئے سب مسرد.

صیغہ: جمع مذکر، اسم مفعول.

مَعْلُومَاتٌ:

ترجمہ: حسابی ہوئی سب عورتیں.

صیغہ: جمع مونث، اسم مفعول.

مَتْرُوكَةٌ:

ترجمہ: چھوڑی ہوئی ایک عورت.

صیغہ: واحد مونث، اسم مفعول.

مَنصُورَانِ:

ترجمہ: مدد کیے ہوئے دو مسرد.

صیغہ: تشنیہ مذکر، اسم مفعول.

3. ذیل کے اردو جملوں کو عربی میں استعمال کریں.

ماری ہوئی ایک عورت.

مَضْرُوبَةٌ.

صیغہ: واحد مونث، اسم مفعول.

چھوڑی ہوئی دو عورتیں.

مَتْرُوكَتَانِ.

صیغہ: تشنیہ مونث، اسم مفعول.

مدد کیے ہوئے سب مسرد.

مَنصُورُونَ.

صیغہ: جمع مذکر، اسم مفعول.

فصل (9) اسم تفضیل

أَسْعُ، أَمْنَعُ، أَعْلَمُ سے اسم تفضیل کی پوری گردان کرو.

أَسْعُ.

صیغہ	واحد	تشنیہ	جمع (1)	جمع (2)
------	------	-------	---------	---------

أَسْمِعُ زیادہ سننے والے کئی مرد	أَسْمَعُونَ زیادہ سننے والے سب مرد	أَسْمَعَانِ زیادہ سننے والے دو مرد	أَسْمِعُ زیادہ سننے والا ایک مرد	مذکر
سَمِعُ زیادہ سننے والی کئی عورتیں	سَمِعْنَ زیادہ سننے والی سب عورتیں	سَمِعَانِ زیادہ سننے والی دو عورتیں	سَمِعِي زیادہ سننے والی ایک عورت	مؤنث

أَمْنَعُ.

جمع (2)	جمع (1)	تثنیہ	واحد	صیغہ
أَمَانِعُ	أَمْنَعُونَ	أَمْنَعَانِ	أَمْنَعُ زیادہ روکنے والا ایک مرد	مذکر
مَنْعُ	مَنْعَاتُ	مَنْعَانِ	مَنْعِي زیادہ روکنے والی ایک عورت	مؤنث

أَعْلَمُ.

جمع (2)	جمع (1)	تثنیہ	واحد	صیغہ
أَعْلَامُ	أَعْلَمُونَ	أَعْلَمَانِ	أَعْلَمُ زیادہ جاننے والا ایک مرد	مذکر
عِلْمُ	عِلْمَاتُ	عِلْمَانِ	عِلْمِي زیادہ جاننے والی ایک عورت	مؤنث

2. أَعْلَمُونَ ، سَمِعَاتُ ، أَصَابُ كَيْفَ مَعْنَى بَسْمَلٍ.

أَعْلَمُونَ:

ترجمہ: زیادہ جاننے والے سب مرد.

صیغہ: جمع (1) مذکر، اسم تفضیل.

سَمِعَاتُ:

ترجمہ: زیادہ سننے والی سب عورتیں.

صیغہ: جمع (1) مؤنث، اسم تفضیل.

أَصَابُ:

ترجمہ: زیادہ مارنے والے کئی مرد.

صیغہ: جمع مذکر، اسم تفضیل.

3. ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں.

زیادہ سننے والے دو مسرد.

أَسْمَعَانِ.

صیغہ: تشنیہ مذکر، اسم تفضیل.

زیادہ مارنے والی دو عورتیں.

ضُرَبِيَانِ.

صیغہ: تشنیہ مؤنث، اسم تفضیل.

زیادہ جاننے والی سب عورتیں.

عُلْمِيَاتٌ.

صیغہ: جمع مؤنث، اسم تفضیل.

زیادہ سننے والے سب مسرد.

أَسْمَعُونَ.

صیغہ: جمع مذکر، اسم تفضیل.

فصل (10) اسم ظرف

1. مَضْرِبٌ، مَنصَرٌ، مَقْتَلٌ سے اسم ظرف کی گردان کرو.

مَضْرِبٌ.

صیغہ واحد	صیغہ تشنیہ	صیغہ جمع
مَضْرِبٌ	مَضْرِبَانِ	مَضْرِبَاتٌ
ایک وقت / جگہ مارنے کی	دو وقت / جگہ مارنے کی	سب وقت / جگہ مارنے کی

مَنصَرٌ

صیغہ واحد	صیغہ تشنیہ	صیغہ جمع
مَنصَرٌ	مَنصَرَانِ	مَنصَرَاتٌ
ایک وقت / جگہ مدد کی	دو وقت / جگہ مدد کرنے کی	سب وقت / جگہ مدد کرنے کی

صیغہ جمع	صیغہ تثنیہ	صیغہ واحد
مَقَاتِلٌ کئی قتل گاہیں	مَقَاتِلَانِ ایک قتل کی جگہ / وقت (قتل گاہ دو)	مَقْتُلٌ قتل کی جگہ / وقت (قتل گاہ ایک)

2. ذیل کے معنی بتاؤ:

مَضَارِبٌ

ترجمہ: سب وقت یا جگہ مارنے کی۔

صیغہ: جمع، اسم ظرف۔

مَسَاجِدُ

ترجمہ: سجدہ کرنے کی کئی جگہیں یا وقت

صیغہ: جمع، اسم ظرف۔

مَدَارِسُ

ترجمہ: پڑھنے کی کئی جگہیں یا وقت۔

صیغہ: جمع، اسم ظرف۔

3. عربی بناؤ:

دو جگہ مارنے کی۔

مَضْرِبَانِ

صیغہ: تثنیہ، اسم ظرف۔

دو زمانے مدد کرنے کے۔

مَنْصَرَانِ

صیغہ: تثنیہ، اسم ظرف۔

فصل (11) اسم آلہ

1. مَضْرِبٌ، مِفْتَاحٌ، مِقْرَاضٌ سے اسم آلہ کی گردان کرو۔

مِضْرَبٌ.

واحد	تثنیہ	جمع
مِضْرَبٌ مارنے کا ایک آلہ	مِضْرَبَانِ مارنے کے دو آلے	مِضْرَابٌ مارنے کے سب آلے
مِضْرَبَةٌ مارنے کا درمیان آلہ	مِضْرَبَتَانِ	مِضْرَابٌ
مِضْرَابٌ مارنے کا بڑا آلہ	مِضْرَابَانِ	مِضْرَابٌ

مِفْتَاحٌ.

واحد	تثنیہ	جمع
مِفْتَاحٌ کھولنے کا ایک آلہ (چابی)	مِفْتَاحَانِ دو چابیاں	مِفْتَاحٌ کئی چابیاں
مِفْتَاحَةٌ درمیان ایک چابی	مِفْتَاحَتَانِ	مِفْتَاحٌ
مِفْتَاحٌ بڑی ایک چابی	مِفْتَاحَانِ	مِفْتَاحٌ

مِقْرَاضٌ.

واحد	تثنیہ	جمع
مِقْرَضٌ چھوٹی تینچی ایک	مِقْرَضَانِ دو تینچیاں	مِقْرَاضٌ کئی تینچیاں
مِقْرَضَةٌ درمیان تینچی ایک	مِقْرَضَتَانِ	مِقْرَاضٌ
مِقْرَاضٌ بڑی تینچی ایک	مِقْرَاضَانِ	مِقْرَاضٌ

2. معنی بتاؤ.

مِسْبَعٌ.

سننے کا ایک آلہ

صیغہ: واحد

مَنَاصِرٌ.

کئی مدد کے آلے

صیغہ: جمع

مَفَاتِيحُ

کئی حسابیاں۔

صیغہ: جمع

3. عسریٰ بناؤ۔

دو آلے سننے کے۔

مِسْمَعَانِ

صیغہ: تشبیہ

سب آلے مارنے کے۔

مَضَارِبُ

صیغہ: جمع

باب اول (نَصَرَ يَنْصُرُ)	صرف صغیر
الظَّلْبُ (ڈھونڈنا)	كَطَبَ يَطْلُبُ طَلْبًا فَهُوَ طَالِبٌ وَ طَلِبٌ يُطْلَبُ طَلْبًا فَهُوَ مَطْلُوبٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أُطْلَبُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَطْلُبُ الظرف منه مَطْلَبٌ والالء منه مَطْلَبٌ افعل تفضيل منه أَطْلَبُ والبونث منه طَلِبِي.
الدُّخُولُ (داحل ہونا)	دَخَلَ يَدْخُلُ دُخُولًا فَهُوَ دَاخِلٌ وَ دُخُلٌ يُدْخَلُ دُخُولًا فَهُوَ مَدْخُولٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أُدْخَلُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَدْخُلُ الظرف منه مَدْخَلٌ والالء منه مَدْخَلٌ افعل تفضيل منه أَدْخَلُ والبونث منه دُخَلِي.
الْعِبَادَةُ (پوجنا)	عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً فَهُوَ عَابِدٌ وَ عِبْدٌ يُعْبَدُ عِبَادَةً فَهُوَ مَعْبُودٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أُعْبَدُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَعْبُدُ الظرف منه مَعْبُدٌ والالء منه مَعْبُدٌ افعل تفضيل منه أَعْبَدُ والبونث منه عُبْدِي
الْقَتْلُ (مارڈالنا)	قَتَلَ يَقْتُلُ قَتْلًا فَهُوَ قَاتِلٌ وَ قَتِيلٌ يُقْتَلُ قَتْلًا فَهُوَ مَقْتُولٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أُقْتَلُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَقْتُلُ الظرف منه مَقْتُلٌ والالء منه مَقْتُلٌ افعل تفضيل منه أَقْتَلُ والبونث منه قُتِلِي.
الْتَرَكُ (چھوڑنا)	تَرَكَ يَتْرُكُ تَرْكًا فَهُوَ تَارِكٌ وَ تَرِكٌ يُتْرَكُ تَرْكًا فَهُوَ مَتْرُوكٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أُتْرِكُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَتْرُكُ الظرف منه مَتْرُوكٌ والالء منه مَتْرُوكٌ افعل تفضيل منه أَتْرِكُ والبونث منه تُرِكِي.

باب دوم (ضَرَبَ يَضْرِبُ)	صرف صغیر
الْغَسْلُ (دھونا)	غَسَلَ يَغْسِلُ غَسْلًا فَهُوَ غَاسِلٌ وَ غَسِيلٌ يُغْسَلُ غَسْلًا فَهُوَ مَغْسُولٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِغْسِلُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَغْسِلُ الظرف منه مَغْسِلٌ والالء منه مَغْسِلٌ افعل تفضيل منه أَغْسِلُ والبونث منه غُسْلِي

كَلَّمَ يُظَلِّمُ ظَلَمًا فَهُوَ ظَالِمٌ وَ ظَلَمَ يُظَلِّمُ ظَلَمًا فَهُوَ مَظْلُومٌ الامر منه اِظْلَمَ والنهي عنه لَا تَظْلِمُ الظرف منه مَظْلَمٌ والالة منه مَظَلَمٌ افعال تفضيل منه اَظْلَمُ والبونث منه ظَلَمِي	الظُّلْمُ (ظلم کرنا)
فَصَلَ يُفْصِلُ فَضْلًا فَهُوَ فَاصِلٌ وَ فُصِّلَ يُفْصِلُ فَضْلًا فَهُوَ مَفْصُولٌ الامر منه اِفْصَلْ والنهي عنه لَا تَفْصِلُ الظرف منه مَفْصِلٌ والالة منه مَفْصَلٌ افعال تفضيل منه اَفْصَلُ والبونث منه فَصْلِي	الْفَصْلُ (جد کرنا)
عَلَبَ يُغَلِبُ غَلْبًا فَهُوَ غَالِبٌ وَ عُلبَ يُغَلِبُ غَلْبًا فَهُوَ مَغْلُوبٌ الامر منه اِغْلِبْ والنهي عنه لَا تَغْلِبْ الظرف منه مَغْلِبٌ والالة منه مِغْلَبٌ افعال تفضيل منه اَغْلَبُ والبونث منه غَلْبِي	الْغَلْبُ (غلب کرنا)
جَلَسَ يُجْلِسُ جُلُوسًا فَهُوَ جَالِسٌ وَ جُلِسَ يُجْلِسُ جُلُوسًا فَهُوَ مَجْلُوسٌ الامر منه اِجْلِسْ والنهي عنه لَا تَجْلِسُ الظرف منه مَجْلِسٌ والالة منه مِجْلَسٌ افعال تفضيل منه اَجْلِسُ والبونث منه جُلْسِي	الْجُلُوسُ (بیٹھنا)

صرف صغير	باب سوم (سَمِعَ يَسْمَعُ)
عَلِمَ يُعَلِّمُ عَلِيمًا فَهُوَ عَلِيمٌ وَ عَلِمَ يُعَلِّمُ عَلِيمًا فَهُوَ مَعْلُومٌ الامر منه اِعْلَمْ والنهي عنه لَا تَعْلَمْ الظرف منه مَعْلَمٌ والالة منه مِعْلَمٌ افعال تفضيل منه اَعْلَمُ والبونث منه عَلْمِي	الْعِلْمُ (جاننا)
فَهَمَ يُفْهَمُ فَهْمًا فَهُوَ فَاهِمٌ وَ فُهِمَ يُفْهَمُ فَهْمًا فَهُوَ مَفْهُومٌ الامر منه اِفْهَمْ والنهي عنه لَا تَفْهَمْ الظرف منه مَفْهَمٌ والالة منه مِفْهَمٌ افعال تفضيل منه اَفْهَمْ والبونث منه فُهْمِي	الْفَهْمُ (سمجھنا)
شَهِدَ يُشْهَدُ شَهَادَةً فَهُوَ شَهِيدٌ وَ شُهِدَ يُشْهَدُ شَهَادَةً فَهُوَ مَشْهُودٌ الامر منه اِشْهَدْ والنهي عنه لَا تَشْهَدْ الظرف منه مَشْهَدٌ والالة منه مِشْهَدٌ افعال تفضيل منه اَشْهَدْ والبونث منه شُهْدِي	الشَّهَادَةُ (گواہی دینا)
حَمِدَ يُحْمَدُ حَمْدًا فَهُوَ حَامِدٌ وَ حُمِدَ يُحْمَدُ حَمْدًا فَهُوَ مَحْمُودٌ الامر منه اِحْمَدْ والنهي عنه لَا تَحْمَدُ الظرف منه مَحْمَدٌ والالة منه مِحْمَدٌ افعال تفضيل منه اَحْمَدُ والبونث منه حُمْدِي	الْحَمْدُ (تعریف کرنا)
شَرِبَ يُشْرَبُ شَرْبًا فَهُوَ شَارِبٌ وَ شُرِبَ يُشْرَبُ شَرْبًا فَهُوَ مَشْرُوبٌ الامر منه اِشْرَبْ والنهي عنه لَا تَشْرَبْ الظرف منه مَشْرَبٌ والالة منه مِشْرَبٌ افعال تفضيل منه اَشْرَبْ والبونث منه شُرْبِي	الشَّرْبُ (پینا)

صرف صغير	باب چہارم (فَتَحَ يَفْتَحُ)
مَنَعَ يَمْنَعُ مَنَعًا فَهُوَ مَانِعٌ وَ مَنِعَ يَمْنَعُ مَنَعًا فَهُوَ مَمْنَعٌ الامر منه اِمْنَعْ والنهي عنه لَا تَمْنَعْ الظرف منه مَمْنَعٌ والالة منه مِمنَعٌ افعال تفضيل منه اَمْنَعُ والبونث منه مَنَعِي	الْمَنَعُ (روکنا)
فَهِمَ يَفْهَمُ فَهْمًا فَهُوَ فَاهِمٌ وَ فُهِمَ يَفْهَمُ فَهْمًا فَهُوَ مَفْهُومٌ الامر منه اِفْهَمْ والنهي عنه لَا تَفْهَمْ الظرف منه مَفْهَمٌ والالة منه مِفْهَمٌ افعال تفضيل منه اَفْهَمْ والبونث منه فُهْمِي	الْفَهْمُ (رنگنا)
رَهَنَ يَرْهَنُ رَهْنًا فَهُوَ رَاهِنٌ وَ رُهِنَ يَرْهَنُ رَهْنًا فَهُوَ مَرْهُونٌ الامر منه اِرْهَنْ والنهي عنه لَا تَرْهَنْ الظرف منه مَرْهَنٌ والالة منه مِرْهَنٌ افعال تفضيل منه اِرْهَنْ والبونث منه رُهْنِي	الرَّهْنُ (رهن رکھنا)
سَلَخَ يَسْلُخُ سَلَخًا فَهُوَ سَالِخٌ وَ سُلِخَ يَسْلُخُ سَلَخًا فَهُوَ مَسْلُوخٌ الامر منه اِسْلُخْ والنهي عنه لَا تَسْلُخْ الظرف منه مَسْلُخٌ والالة منه مِسلُخٌ افعال تفضيل منه اَسْلُخْ والبونث منه سَلْخِي	السَّلَخُ (کھال کھینچنا)

باب پنجم (كزوم) يَكْرُمُ	صرف صغير
قَرُبَ يَقْرُبُ قُرْبًا فَهُوَ قَرِيبٌ الامر منه اقْرُبْ والنهي عنه لا تَقْرُبْ الظرف منه مَقْرَبٌ والالة منه مَقْرَبٌ افعل تفضيل منه اقْرَبْ واليونث منه قُرْبِي	القُرْبُ (نزديك هونا)
بَعُدَ يَبْعُدُ بُعْدًا فَهُوَ بَعِيدٌ الامر منه اُبْعُدْ والنهي عنه لا تَبْعُدْ الظرف منه مَبْعُدٌ والالة منه مَبْعُدٌ افعل تفضيل منه اُبْعُدْ واليونث منه بُعْدِي	الْبُعْدُ (دور هونا)
كَثُرَ يَكْثُرُ كَثْرَةً فَهُوَ كَثِيرٌ الامر منه اَكْثُرْ والنهي عنه لا تَكْثُرْ الظرف منه مَكْثَرٌ والالة منه مَكْثَرٌ افعل تفضيل منه اَكْثُرْ واليونث منه كَثْرِي	الْكَثْرَةُ (بهت هونا)
لَطَفَ يَلْطِفُ لُطْفًا فَهُوَ لَطِيفٌ الامر منه اَلْطِفْ والنهي عنه لا تَلْطِفْ الظرف منه مَلْطَفٌ والالة منه مَلْطَفٌ افعل تفضيل منه اَلْطِفْ واليونث منه لُطْفِي	الْلُطْفُ (پاكيزه هونا)

ثلاثي مزيد في:

ثلاثي باهمزه وصل.

باب اول (اجتناب) پر هيز كرنا	صرف صغير
اِقْتَنَصَ يَقْتَنِصُ اِقْتِنَاصًا فَهُوَ مُقْتَنِصٌ و اِقْتَنِصْ يَقْتَنِصْ اِقْتِنَاصًا فَهُوَ مُقْتَنِصٌ الامر منه اِقْتَنِصْ والنهي عنه لا تَقْتَنِصْ	الْاِقْتِنَاصُ (شكار كرنا)
اِعْتَزَلَ يَعْتَزِلُ اِعْتِزَالًا فَهُوَ مُعْتَزِلٌ و اِعْتِزِلْ يَعْتِزِلْ اِعْتِزَالًا فَهُوَ مُعْتَزِلٌ الامر منه اِعْتِزِلْ والنهي عنه لا تَعْتِزِلْ	الْاِعْتِزَالُ (يكسو هونا)
اِحْتَمَلَ يَحْتَمِلُ اِحْتِمَالًا فَهُوَ مُحْتَمِلٌ و اِحْتَمِلْ يَحْتَمِلُ اِحْتِمَالًا فَهُوَ مُحْتَمِلٌ الامر منه اِحْتَمِلْ والنهي عنه لا تَحْتَمِلْ	الْاِحْتِمَالُ (اٹھانا)

باب دوم (استنصار) الاستفسار (پوچھنا)	صرف صغير
اسْتَفْسَرَ يَسْتَفْسِرُ اسْتِفْصَارًا فَهُوَ مُسْتَفْسِرٌ و اسْتَفْسِرْ يَسْتَفْسِرُ اسْتِفْصَارًا فَهُوَ مُسْتَفْسِرٌ الامر منه اسْتَفْسِرْ والنهي عنه لا تَسْتَفْسِرْ	الاسْتِفْصَارُ (پوچھنا)
اسْتَغْفَرَ يَسْتَغْفِرُ اسْتِغْفَارًا فَهُوَ مُسْتَغْفِرٌ و اسْتَغْفِرْ يَسْتَغْفِرُ اسْتِغْفَارًا فَهُوَ مُسْتَغْفِرٌ الامر منه اسْتَغْفِرْ والنهي عنه لا تَسْتَغْفِرْ	الاسْتِغْفَارُ (بخش چاهنا)
اسْتَخْلَفَ يَسْتَخْلِفُ اسْتِخْلَافًا فَهُوَ مُسْتَخْلِفٌ و اسْتَخْلِفْ يَسْتَخْلِفُ اسْتِخْلَافًا فَهُوَ مُسْتَخْلِفٌ الامر منه اسْتَخْلِفْ والنهي عنه لا تَسْتَخْلِفْ	الاسْتِخْلَافُ (خليف بنانا)
اسْتَبْتَعَ يَسْتَبْتَعُ اسْتِبْتَاعًا فَهُوَ مُسْتَبْتَعٌ و اسْتَبْتَعْ يَسْتَبْتَعُ اسْتِبْتَاعًا فَهُوَ مُسْتَبْتَعٌ الامر منه اسْتَبْتَعْ والنهي عنه لا تَسْتَبْتَعْ	الاسْتِبْتَاعُ (سانده اٹھانا)

باب سوم (انفطار)	صرف صغیر
الْأَشْعَابُ (شاخ در شاخ)	أَشْعَبَ يَنْشَعِبُ إِشْعَابًا فَهُوَ مُنْشَعِبٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِشْعَابٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَنْشَعِبُ
الْأَنْقَلَابُ (بدل جانا)	أَنْقَلَبَ يَنْقَلِبُ أَنْقَلَابًا فَهُوَ مُنْقَلِبٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَنْقَلَبٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَنْقَلِبُ
الْأَنْصِرَافُ (لوٹن)	أَنْصَرَافٌ يَنْصَرِفُ أَنْصِرَافًا فَهُوَ مُنْصَرِفٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَنْصِرَافٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَنْصَرِفُ

باب چهارم (اخصر)	صرف صغیر
الْأَخْضِرُ (سبز ہونا)	أَخْضَرَ يَخْضِرُ أَخْضِرًا فَهُوَ مُخْضِرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِخْضِرٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَخْضِرُ
الْأَصْفَرُ (زرد ہونا)	أَصْفَرَ يَصْفِرُ أَصْفِرًا فَهُوَ مُصْفِرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِصْفِرٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَصْفِرُ
الْأَبْيَضُ (سفید ہونا)	أَبْيَضَ يَبْيِضُ أَبْيَاضًا فَهُوَ مُبْيِضٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَبْيِضٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَبْيِضُ

باب پنجم (ادھیم)	صرف صغیر
الْأَسْمَارُ (گندم گوں ہونا)	أَسْمَرَ يَسْمَرُ أَسْمَارًا فَهُوَ مُسْمَرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِسْمَارٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَسْمَرُ
الْأَكْمَاتُ (گھوڑے کا کیمت ہونا)	أَكْمَتَ يَكْمَتُ أَكْمَاتًا فَهُوَ مُكْمِتٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِكْمَاتٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَكْمَتُ
الْأَصْحَارُ (گھاس کا خشک ہونا)	أَصْحَرَ يَصْحَرُ أَصْحَارًا فَهُوَ مُصْحَرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِصْحَارٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَصْحَرُ

باب ششم (اخشیشان)	صرف صغیر
الْأَخْلَاقُ (کپڑے کا پرانا ہونا)	أَخْلَقَ يَخْلُقُ أَخْلَاقًا فَهُوَ مُخْلِقٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِخْلَاقٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَخْلُقُ
الْأَمْلِيَاخُ (پانی کا کھرا ہونا)	أَمْلَأَ يَمْلَأُ أَمْلِيًاخًا فَهُوَ مُمْلِئٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِمْلَؤٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَمْلَأُ
الْأَخْرُوقُ (کپڑے کا پھٹ جانا)	أَخْرَقَ يَخْرُقُ أَخْرِيقًا فَهُوَ مُخْرِقٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِخْرُوقٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَخْرُقُ

باب ہفتم (افعو)	صرف صغیر
الْأَخْرُوطُ (کڑی کا چھیلنا)	أَخْرَوَطَ يَخْرُوطُ أَخْرَوَاتًا فَهُوَ مُخْرَوِطٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِخْرَوِطٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَخْرَوِطُ
الْأَعْلُوَطُ (اونٹ کی گردن میں مسلاہ باندھنا)	أَعْلَوَطَ يَعْْلُوَطُ أَعْلُوَاتًا فَهُوَ مُعْلَوِطٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِعْلُوِطٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَعْلُوِطُ

باب ہشتم (اڈارک)	صرف صغیر
الْأِدَارِكُ (پہنچنا)	أَدَارَكَ يَدَارِكُ أَدَارِكًا فَهُوَ مُدَارِكٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِدَارِكٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَدَارِكُ

إِشَابَةٌ يَشَابُهُ إِشَابُهُ فَهُوَ مُشَابَهُ الْأَمْرُ مِنْهُ إِشَابَةٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَشَابَهُ	الْإِشَابَةُ (ہم شکل ہونا)
إِصَالِحٌ يَصَالِحُ إِصَالِحًا فَهُوَ مُصَالِحٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِصَالِحٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَصَالِحُ	الْإِصَالِحُ (آپس میں صلح کرنا)

باب نهم (اَظْهَرُ)	صرف صغیر
إِزْمَلٌ يَزْمَلُ إِزْمَالًا فَهُوَ مُزْمَلٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِزْمَلٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَزْمَلُ	إِزْمَلٌ (کپڑا اوڑھنا)
إِضْرَعٌ يَضْرَعُ إِضْرَعًا فَهُوَ مُضْرَعٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِضْرَعٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَضْرَعُ	الْإِضْرَعُ (عاسبزی کرنا)
إِذْكَرٌ يَذْكَرُ إِذْكَرًا فَهُوَ مُذْكَرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِذْكَرٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَذْكَرُ	الْإِذْكَرُ (نہیست قبول کرنا)

ثلاثی مزید فی بے ہمزہ وصل کے 5 باب:

باب اول (اَكْرَمُ)	صرف صغیر
أَسْلَمٌ يُسَلِمُ إِسْلَامًا فَهُوَ مُسَلِمٌ وَأُسْلِمَ يُسَلَّمُ إِسْلَامًا فَهُوَ مُسَلَّمٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَسْلِمٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُسَلِمُ	الْإِسْلَامُ (مسلمان ہونا، تابعداری کے لیے گردن جھکانا)
أَذْهَبَ يَذْهَبُ إِذْهَابًا فَهُوَ مُذْهِبٌ وَأُذِّبَ يَذْهَبُ إِذْهَابًا فَهُوَ مُذْهِبٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَذْهَبٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُذْهِبُ	الْإِذْهَابُ (لے جانا)
أَكْمَلَ يَكْمِلُ إِكْمَالًا فَهُوَ مُكْمِلٌ وَأُكْمِلَ يَكْمِلُ إِكْمَالًا فَهُوَ مُكْمِلٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَكْمِلُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُكْمِلُ	الْإِكْمَالُ (پورا کرنا)
أَعْلَنَ يُعْلِنُ إِعْلَانًا فَهُوَ مُعْلِنٌ وَأُعْلِنَ يُعْلِنُ إِعْلَانًا فَهُوَ مُعْلِنٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَعْلِنُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُعْلِنُ	الْإِعْلَانُ (ظاہر کرنا)

باب دوم (تَضَرَّيْفٌ)	صرف صغیر
قَدَّمَ يَقْدِمُ تَقْدِيمًا فَهُوَ مُقَدِّمٌ وَقُدِّمَ يَقْدَمُ تَقْدِيمًا فَهُوَ مُقَدِّمٌ الْأَمْرُ مِنْهُ قَدِّمُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُقَدِّمُ	التَّقْدِيمُ (آگے ہونا، آگے کرنا)
عَجَلَ يُعْجِلُ تَعْجِيلًا فَهُوَ مُعْجِلٌ وَعُجِّلَ يُعْجَلُ تَعْجِيلًا فَهُوَ مُعْجِلٌ الْأَمْرُ مِنْهُ عَجَلٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُعْجِلُ	التَّعْجِيلُ (جلدی کرنا)
مَكَّنَ يُمَكِّنُ تَمْكِينًا فَهُوَ مُمَكِّنٌ وَمُكِّنَ يُمَكِّنُ تَمْكِينًا فَهُوَ مُمَكِّنٌ الْأَمْرُ مِنْهُ مَكِّنُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُمَكِّنُ	التَّمْكِينُ (جگ دینا)
عَظَّمَ يُعْظِمُ تَعْظِيمًا فَهُوَ مُعْظِمٌ وَعُظِّمَ يُعْظَمُ تَعْظِيمًا فَهُوَ مُعْظِمٌ الْأَمْرُ مِنْهُ عَظَّمُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُعْظِمُ	التَّعْظِيمُ (بڑائی کرنا)

باب سوم (تَقَبَّلٌ)	صرف صغیر
---------------------	----------

تَبَسَّمَ يَتَبَسَّمُ تَبَسُّمًا فَهُوَ مُتَبَسِّمٌ الْاَمْرُ مِنْهُ تَبَسُّمٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَتَبَسَّمُ	التَّبَسُّمُ (سکرانا)
تَفَكَّرَ يَتَفَكَّرُ تَفَكُّرًا فَهُوَ مُتَفَكِّرٌ الْاَمْرُ مِنْهُ تَفَكُّرٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَتَفَكَّرُ	التَّفَكُّرُ (ميوہ کھانا)
تَكَلَّبْتُ يَتَكَلَّبُ تَكَلُّبًا فَهُوَ مُتَكَلِّبٌ الْاَمْرُ مِنْهُ تَكَلُّبٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَتَكَلَّبُ	التَّكَلُّبُ (دیر کرنا)
تَعَجَّلَ يَتَعَجَّلُ تَعَجُّلًا فَهُوَ مُتَعَجِّلٌ الْاَمْرُ مِنْهُ تَعَجُّلٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَتَعَجَّلُ	التَّعَجُّلُ (جسلی کرنا)

صرف صغیر	باب چہارم (مُقَاتَلَةٌ وَقِتَالٌ)
خَادَعُ يُخَادِعُ مُخَادَعَةً وَخِدَاعًا فَهُوَ مُخَادِعٌ الْاَمْرُ مِنْهُ خَادِعٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُخَادِعُ	المُخَادَعَةُ وَالْخِدَاعُ (دھوکہ دینا)
عَاقَبَ يُعَاقِبُ مُعَاقَبَةً وَعِقَابًا فَهُوَ مُعَاقِبٌ الْاَمْرُ مِنْهُ عَاقِبٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُعَاقِبُ	المُعَاقِبَةُ وَالْعِقَابُ (عذاب دینا)
لَازِمٌ يُلَازِمُ مُلَازِمَةً وَلِزَامًا فَهُوَ مُلَازِمٌ الْاَمْرُ مِنْهُ لَازِمٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُلَازِمُ	المُلَازِمَةُ وَاللِّزَامُ (آپس میں لازم پکڑنا)
بَارَكَ يُبَارِكُ مُبَارَكَةً فَهُوَ مُبَارِكٌ الْاَمْرُ مِنْهُ بَارِكٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُبَارِكُ	المُبَارَكَةُ (برکت حاصل کرنا)

صرف صغیر	باب پنجم (تَقَابُلٌ)
تَفَاحَرُ يَتَفَاحَرُ تَفَاحُرًا فَهُوَ مُتَفَاحِرٌ الْاَمْرُ مِنْهُ تَفَاحُرٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُفَاحِرُ	التَّفَاحُرُ (آپس میں فخر کرنا)
تَعَارَفَ يَتَعَارَفُ تَعَارُفًا فَهُوَ مُتَعَارِفٌ الْاَمْرُ مِنْهُ تَعَارُفٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَعَارَفُ	التَّعَارُفُ (ایک دوسرے کو پہچاننا)
تَخَافَتْ يَتَخَافَتُ تَخَافَتًا فَهُوَ مُتَخَافِتٌ الْاَمْرُ مِنْهُ تَخَافَتٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَخَافَتُ	التَّخَافَتُ (آپس میں پوشیدہ بات کرنا)

رباہی:

رباہی مجبور

باب اول (بَعَثَرَةٌ)	صرف صغیر
الْقَنْطَرَةُ (بل باندھنا)	قَنْطَرٌ يُقَنْطِرُ قَنْطَرَةً فَهُوَ مُقَنْطِرٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ قَنْطَرٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَقَنْطِرْ
الزَّعْفَرَةُ (زعفران سے رنگنا)	زَعْفَرٌ يُزَعْفِرُ زَعْفَرَةً فَهُوَ مُزَعْفِرٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ زَعْفِرٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُزَعْفِرْ
العَسْكَرَةُ (لشکرتیا رکنا)	عَسْكَرٌ يُعَسِّكِرُ عَسْكَرَةً فَهُوَ مُعَسِّكِرٌ وَعَسْكَرٌ يُعَسِّكِرُ عَسْكَرَةً فَهُوَ مُعَسِّكِرٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ عَسْكَرٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُعَسِّكِرْ
الدَّخْرَجَةُ (لڑھکانا)	دَخْرَجٌ يُدَخِّرُ دَخْرَجَةً فَهُوَ مُدَخِّرٌ وَدُخْرَجٌ يُدَخِّرُ دَخْرَجَةً فَهُوَ مُدَخِّرٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ دَخْرَجٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُدَخِّرْ

رباعی مزید فیہ کی دو قسمیں ہیں۔

1. رباعی مزید فیہ باہمزہ وصل

2. رباعی مزید فیہ بے ہمزہ وصل

رباعی مزید فیہ باہمزہ وصل کے دو باب ہیں اور یہ دونوں لازم ہیں۔

باب اول (إِبْرِيْشَاقُ)	صرف صغیر
الإِبْرِيْشَاقُ (تجھ ہونا)	إِبْرِيْشَاقٌ يُبْرِيْشِقُ إِبْرِيْشَاقًا فَهُوَ مُبْرِيْشِقٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ إِبْرِيْشَاقٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَبْرِيْشِقْ
الإِعْرِيْشَاقُ (بال سیاہ ہونا)	إِعْرِيْشَاقٌ يُعْرِيْشِقُ إِعْرِيْشَاقًا فَهُوَ مُعْرِيْشِقٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ إِعْرِيْشَاقٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَعْرِيْشِقْ
الإِسْلِيْطَاءُ (گدی پر سونا)	إِسْلِيْطَاءٌ يُسْلِيْطِئُ إِسْلِيْطَاءً فَهُوَ مُسْلِيْطِئٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ إِسْلِيْطَاءٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُسْلِيْطِئْ

باب دوم (إِقْشَعْرَاؤُ)	صرف صغیر
الإِقْشَعْرَاؤُ (سکنا)	إِقْشَعْرَاؤٌ يُقْشَعِرُّ إِقْشَعْرَاؤًا فَهُوَ مُقْشَعِرٌّ وَالْأَمْرُ مِنْهُ إِقْشَعْرَاؤٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَقْشَعِرْ
الإِشْفِيْئَاؤُ (پراگندہ ہونا)	إِشْفِيْئَاؤٌ يُشْفِيْئُ إِشْفِيْئًا فَهُوَ مُشْفِيْئٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ إِشْفِيْئٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُشْفِيْئْ
الإِزْمَهْرَاؤُ (آنکھ سرخ ہونا)	إِزْمَهْرَاؤٌ يُزْمَهِّرُ إِزْمَهْرَاؤًا فَهُوَ مُزْمَهِّرٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ إِزْمَهْرَاؤٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُزْمَهِّرْ

رباعی مزید فیہ بے ہمزہ وصل کا صرف ایک باب آتا ہے۔

باب اول (تَسْرِبَلٌ)	صرف صغیر
التَّسْرِبَلُ (ناز سے چلنا)	تَسْرِبَلٌ يُتَسْرِبَلُ تَسْرِبَلًا فَهُوَ مُتَسْرِبِلٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ تَسْرِبَلٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَسْرِبَلْ
التَّمْقَهْرُ (متہور ہونا)	تَمْقَهْرٌ يُتَمَقِّهَرُ تَمْقَهْرًا فَهُوَ مُتَمَقِّهَرٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ تَمْقَهْرٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَمَقِّهَرْ
التَّبْرِقَعُ (برقع پہننا)	تَبْرِقَعٌ يُتَبْرِقَعُ تَبْرِقَعًا فَهُوَ مُتَبْرِقِعٌ وَالْأَمْرُ مِنْهُ تَبْرِقَعٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَبْرِقَعْ

ملحق بہ رباعی دو قسم پر ہے۔

ملحق برباعی مجرد کے سات باب ہیں.

باب	مصدر	صرف صغیر
1.	جَلْبَبَةٌ (چادر اوڑھنا)	جَلَبَبٌ يُجَلِبِبُ جَلْبَبَةً فَهُوَ مُجَلِبِبٌ الْأَمْرَ مِنْهُ جَلِبِبٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُجَلِبِبُ
2.	قَلْنَسَةٌ (ٹوپی اوڑھنا)	قَلْنَسٌ يُقَلْنِسُ قَلْنَسَةً فَهُوَ مُقَلْنِسٌ وَقَلْنِسٌ يُقَلْنِسُ قَلْنَسَةً فَهُوَ مُقَلْنِسُ الْأَمْرِ مِنْهُ قَلْنِسٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُقَلْنِسُ
3.	جَوْرِبَةٌ (حیرا پھینا)	جَوْرِبٌ يُجَوْرِبُ جَوْرِبَةً فَهُوَ مُجَوْرِبٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُجَوْرِبُ
4.	سَرْوَلَةٌ (ازار پھینا)	سَرْوَلٌ يُسَرِّوَلُ سَرْوَلَةً فَهُوَ مُسَرِّوَلٌ وَسَرْوَلٌ يُسَرِّوَلُ سَرْوَلَةً فَهُوَ مُسَرِّوَلُ الْأَمْرِ مِنْهُ سَرْوَلٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُسَرِّوَلُ
5.	خَيْعَلَةٌ (بے آستین کرتا پھینا)	خَيْعَلٌ يُخَيْعِلُ خَيْعَلَةً فَهُوَ مُخَيْعِلٌ وَخُوْعَلٌ يُخَيْعِلُ خَيْعَلَةً فَهُوَ مُخَيْعِلُ الْأَمْرِ مِنْهُ خَيْعِلٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُخَيْعِلُ
6.	شَرِيفَةٌ (کھیتی کے بڑھے ہوئے پتوں کو کاٹنا)	شَرِيفٌ يُشْرِيفُ شَرِيفَةً فَهُوَ مُشْرِيفٌ وَشَرِيفٌ يُشْرِيفُ شَرِيفَةً فَهُوَ مُشْرِيفُ الْأَمْرِ مِنْهُ شَرِيفٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُشْرِيفُ
7.	قَلْسَاءَةٌ (ٹوپی پھینا)	قَلْسَاءٌ يُقَلْسِئُ قَلْسَاءَةً فَهُوَ مُقَلْسِئٌ وَقَلْسِئٌ يُقَلْسِئُ قَلْسَاءَةً فَهُوَ مُقَلْسِئُ الْأَمْرِ مِنْهُ قَلْسِئٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُقَلْسِئُ

ملحق برباعی مسزید فیہ بھی دو قسم پر ہے

1. ملحق بہ تَدَخَّرَجَ 2. ملحق بہ اِخْرَجَ

2. ملحق بہ تَدَخَّرَجَ کے 7 باب ہیں

باب	مصادر	صرف صغیر
1.	تَجَلْبَبٌ (چادر اوڑھنا)	تَجَلَبَبٌ يَتَجَلَبَبُ تَجَلْبَبًا فَهُوَ مُتَجَلَبِبٌ الْأَمْرَ مِنْهُ تَجَلْبِبٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَجَلَبِبُ
2.	تَقَلْنِسٌ (ٹوپی اوڑھنا)	تَقَلْنِسٌ يَتَقَلْنِسُ تَقَلْنِسًا فَهُوَ مُتَقَلْنِسٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَقَلْنِسُ
3.	تَجَوْرِبٌ (حیرا پھینا)	تَجَوْرِبٌ يَتَجَوْرِبُ تَجَوْرِبًا فَهُوَ مُتَجَوْرِبٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَجَوْرِبُ
4.	تَسَرِّوَلٌ (ازار پھینا)	تَسَرِّوَلٌ يَتَسَرِّوَلُ تَسَرِّوَلًا فَهُوَ مُتَسَرِّوَلٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَسَرِّوَلُ
5.	تَخَيْعِلٌ (بے آستین کرتا پھینا)	تَخَيْعِلٌ يَتَخَيْعِلُ تَخَيْعِلًا فَهُوَ مُتَخَيْعِلٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُتَخَيْعِلُ

تَشْرِيْفٌ يَتَشْرِيْفُ تَشْرِيْفًا فَهُوَ مُتَشْرِيْفٌ الْاَمْرُ مِنْهُ تَشْرِيْفٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَتَشْرِيْفُ	تَشْرِيْفٌ (تھستی کے بڑھے ہوئے پتوں کو کاٹنا)	.6
تَقْلَسُ يَتَقْلَسُ تَقْلَسًا فَهُوَ مُتَقْلَسٌ الْاَمْرُ مِنْهُ تَقْلَسٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَتَقْلَسُ	تَقْلَسٌ (ٹوپی پہننا)	.7

ملحق ب را حو ن ج م کے دو باب ہیں۔

باب	مصدر	صرف صغیر
.1	إِعْنَسَ (بہت کبڑا ہونا)	إِعْنَسَ يَعْئَسُ إِعْنَسًا فَهُوَ مُعْنَسٌ الْاَمْرُ مِنْهُ إِعْنَسٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَعْئَسُ
.2	إِسْلَقَاءُ (چت سونا)	إِسْلَقِي يَسْلُقِي إِسْلِقَاءً فَهُوَ مُسْلَقٌ الْاَمْرُ مِنْهُ إِسْلَقٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَسْلُقُ